

فَسَانِ حَدِيثِ مَا نُؤَدِّ
پیدن معاوی کی خوبصورت مستند کتاب

مُنَاجَاةٌ مَقْبُولَةٌ مُتَرَجَّمَةٌ

مؤلف

پہلے لائے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ انتخاب: مولانا عبدالماجد دیباوی رحمۃ اللہ علیہ

فوائد تسہیل: حضرت مولانا حافظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ صاحب

نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ



ترجمہ انتخاب: مولانا عبدالماجد ریابادی

فوائد اہتمام

مولانا حافظ فضل الرحیم مدظلہ العالی
خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مناجرتی قدس سرہ

1- فرسٹ فلور زبیدہ سنٹر 40 اردو بازار لاہور

Tel: 92-42-7313392, Cell: 0333-4210985

اقراء شرفیہ سینی

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	پہلی منزل بروز ہفتہ	۱۰
۲	دوسری منزل بروز اتوار	۲۸
۳	تیسری منزل بروز پیر	۴۸
۴	چوتھی منزل بروز منگل	۶۶
۵	پانچویں منزل بروز بدھ	۸۶
۶	چھٹی منزل بروز جمعرات	۱۰۲
۷	ساتویں منزل بروز جمعہ	۱۲۰

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

قارئین کرام! دعاؤں کا یہ خوبصورت مجموعہ ”مناجات

مقبول“ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور

اللہ مرقدہ نے قرآن و حدیث کی دعاؤں سے منتخب فرمایا ہے۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان دعاؤں کو سات

حصوں میں تقسیم فرمایا تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت کے ساتھ یومیہ

ایک منزل پڑھنے کی سعادت مل سکے۔ حکیم الامت حضرت مولانا

اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ”یہ دعائیں

خداوند کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان

فرمودہ ہیں تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی تردد اور شک نہیں ہونا

چاہئے مگر شرط یہ ہے کہ دعاؤں کی تلاوت کرنے والے اخلاص،



توجہ اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائیں۔“
ان دعاؤں کو پڑھتے وقت اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

”مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔“

اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ”دعا مومن کا ہتھیار ہے“

دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

ملفوظ خاطر رکھا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ان دعاؤں کو صدق دل

سے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

اس ”مناجات مقبول“ کی تصحیح اور نگرانی میں جناب مولانا

مشرف علی تھانوی صاحب مدظلہ العالی، جناب قاضی محمد یونس

انور صاحب مدظلہ العالی، جناب قاری الیاس صاحب مدظلہ

العالی اور جناب مولانا خلیل احمد تھانوی صاحب مدظلہ العالی کی

محنت شاقہ کا دخل ہے اور معیار اس ”مناجات مقبول“ کو بنایا گیا جو



بارگاہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مناجات



اے خدائے پاک رحمن و رحیم
 اے اللہ العظیمین اے بے نیاز
 تو وہ داتا ہے کہ دینے کیلئے
 تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو
 مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض
 مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا
 بلکہ مضمون بھی ہر اک درخواست کا
 ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے
 ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ
 صدقہ اپنے عزت و اجلال کا
 اپنی رحمت ہم پہ اب مزلول کر
 قاضیء حاجات و وہاب و کریم
 دین و دنیاں میں ہمارے کارساز
 در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے
 پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو
 اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض
 مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا
 تو نے یا رب خود ہمیں سکھلا دیا
 جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے
 آپڑے اب تیرے در پر یا اللہ
 صدقہ پیغمبر کا انکی آل کا
 یہ دعا اور ”مناجات مقبول“ کر



پہلی منزل
ہر روز ہفتہ



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولِ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مُحَمَّدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ السُّنَاجَاتِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُولِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُورُ وَالْقَبُولُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَأَنْشَعَبَتِ الْفُرُوعُ ۝ وَمِنَ الْأَصْوَالِ ۝ ثُمَّ نَسَأُكَ بِسَاءِ

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُولُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

پہلی منزل بروز ہفتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں (بھی) بھلائی دے اور آخرت میں (بھی) بھلائی دے اور ہمیں دوزخ

عَذَابِ النَّارِ ۲ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ

کے عذاب سے بچادے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے

اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ۳ رَبَّنَا لَا

قدم جمادے اور ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اے ہمارے رب!

تَوَاخِذُنَا اِنْ نَّسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا

ہماری پکڑ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب اور ہمارے اوپر نہ رکھ

فاتحہ ۱ یہ جامع ترین دُعا آنحضرت ﷺ نے اکثر پڑھی ہے۔ اس کے مفہوم پر نظر

دوڑائیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی کی دُعا تعلیم دی جا رہی ہے۔ **فاتحہ ۳** مذکورہ دُعا شب

معراج میں عرش معلیٰ سے آیا ہوا عظیم تحفہ ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ

نہ ڈالیں جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ یہ کلمات صبح و شام انسان کی زبان پر جاری رہنے چاہیں۔

إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا

بھاری بوجھ جیسا تو نے ہم سے پیشتر کے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب!

وَلَا تُحِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکتے ہوں۔ اور ہم سے درگزر کر

وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

اور ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہم کو غالب کر دے

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

کافر لوگوں پر اے ہمارے پروردگار! ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد پھیر نہ دینا

وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اور ہمیں اپنے حضور سے (بڑی) رحمت عطا کر۔ بے شک تو تو بڑا عطا کرنے والا ہے

رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں بچا عذاب

فائدہ ۳ دُعائے مذکورہ حسن خاتمہ کی بشارت دے رہی ہے اس دعا میں یہ درخواست کی گئی

ہے، اے اللہ نور ایمان اور ہدایت دینے کے بعد ہم سے یہ دولت واپس نہ لے لینا۔ علماء و

مشائخ نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والا کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو کائنات میں سب سے

بڑی دولت ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔

النَّارِ ﴿۱﴾ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

دوزخ سے۔ اے ہمارے رب! تو نے یہ کارخانہ قدرت یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا تو پاک ہے اس

فِقْنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ

سے پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے جسے دوزخ میں ڈالا

فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

پس اُسے رُسوا ہی کر ڈالا اور سیاہ کاروں کا کوئی بھی ہمدرد نہیں۔

﴿۳﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

اے ہمارے رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لئے پکارتے سنا کہ اپنے پروردگار پر

إِمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَاْمْتَنَّا ﴿۴﴾ رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ

ایمان لے آؤ اور ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار! اب ہمارے گناہ بخش دے اور اتار دے

عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۵﴾ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا

ہماری برائیوں کو اور ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے رب! ہمیں وہ عطا کر جو تو

فائدہ ۸ اس دُعا میں یہ درخواست کی گئی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری

برائیوں کو ختم فرما۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔

حدیث میں ہے کہ صبح و شام تین تین مرتبہ اَللّٰهُمَّ اَجْزِنِي مِنَ النَّارِ پڑھنے والے کیلئے جہنم خود

سفارش کرے گی کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا۔ یہ دعا حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔

وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو

تُخْلِفُ الْبُعَادَ ﴿۱۰﴾ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ

وعدہ خلافی نہیں کرتا اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کئے ہیں اور اگر تو ہی ہمیں

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

نہ بخشے گا اور ہم پر رحمت نہ کرے گا، تو ہم تو یقیناً نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔

﴿۱۱﴾ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام ہی کی حالت پر موت دے

﴿۱۲﴾ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

تو ہی ہمارا مددگار ہے پس تو ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحمت کر اور تو ہی سب سے بہتر

الْغُفْرِينَ ﴿۱۳﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ظالم لوگوں کا ہدف نہ بناؤ۔

فائدہ ۱۰ یہ مذکورہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ہے جو ہر مسلمان کو اپنی دعاؤں

میں شامل کرنی چاہئے کہ جس کی برکت سے گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی

ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شائد سب سے پہلی مغفرت و بخشش کی طلب کردہ یہی دعا ہے

جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں بشرطیکہ غافل دل سے یہ دعا نہ کی گئی ہو۔

الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے کافر لوگوں سے چھڑالیں۔

الْكَافِرِينَ ۱۴ فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَاٰلِ

اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا رفیق

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّالْحَقْنِي

دنیا اور آخرت میں رہو۔ مجھ کو اسلام پر موت دیجیو اور مجھے شامل کیجیو

بِالصَّلٰحِيْنَ ۱۵ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلٰوَةِ وَمِنْ

نیکیوں کے ساتھ۔ اے میرے پروردگار! مجھے اور میری نسل کو نماز درست رکھنے والا کر دے۔

ذُرِّيَّتِي ۱۶ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

اے ہمارے رب! میری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے پروردگار! مجھے

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنین کو بخش دیجیو جس دن کہ حساب قائم ہو۔

فائدہ ۱۵ یہ دعا نماز میں التحيات کے اندر ہر مسلمان پڑھتا ہے جس میں اپنے لئے والدین

کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے بخشش کی دعا طلب کر کے آخرت میں ذخیرہ اکٹھا کیا جا رہا

ہے۔ یہ والدین کے لئے عظیم دعا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو

کثرت سے پڑھنے سے والدین کے حق میں کوتاہی اور غفلت برتنے کا ازالہ ہو جاتا ہے

۱۷ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۱۸ رَبِّ ادْخُلْنِي

اے میرے رب! میرے والدین پر رحمت کر، جیسا کہ انہوں نے مجھ چھوٹے کو پالا۔ اے میرے رب!

مُدْخَلٍ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٍ صِدْقٍ

مجھے اندر بھی صاف لے جا اور مجھے باہر بھی صاف نکال لا

وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ۱۹

اور میرے حق میں اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت تجویز کر دے۔

۱۹ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے حضور سے رحمت خاصہ عنایت کر اور ہمارے مقصد میں کامیابی

أَمْرِنَا رَشْدًا ۲۰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۱۰ وَيَسِّرْ لِي

کا سامان بہم پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار! میرا سینہ کھول دے اور مجھ پر میرا کام

أَمْرِي ۱۰ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۱۰ يَفْقَهُوا قَوْلِي

آسان کر دے اور میری زبان سے گنجل کھول دے کہ میری بات کو لوگ سمجھ لیں

فائدہ ۱۹ اس دُعا میں اللہ سے رحمت اور دنیا کے ہر کام میں صحیح سمت طلب کی جا رہی ہے۔ یہ

دُعا آنحضرت ﷺ نے ہجرت کے موقع پر فرمائی یا اللہ میری مکہ سے ہجرت اور مدینہ میں داخلہ

موجب سعادت ہو۔ فائدہ ۲۰ یہ دُعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے یہ ہر طالب

علم عالم مبلغ کے روزبان ہونی چاہیں کہ اس کی برکت سے سینہ بھی کھلتا ہے اور زبان بھی کھلتی ہے۔

۲۱ ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ۲۲ ﴿أَنْتَ مَسْنِي الضُّرُّوَأَنْتَ

اے میرے پروردگار! مجھے علم میں بڑھا۔ مجھے دکھ نے ستایا ہے! اور تو سب سے

۲۳ ﴿أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ﴾ ۲۴ ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور سب سے

۲۵ ﴿الْوَارِثِينَ﴾ ۲۶ ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ

اچھا وارث تو تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار! مجھے مبارک جگہ میں اتار اور تو ہی سب سے

۲۷ ﴿خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ۲۸ ﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ

بہتر اتارنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کی چھیڑ خانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں

۲۹ ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يُخْضِرُونَنَا﴾ ۳۰ ﴿رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے

۳۱ ﴿وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ﴾ ۳۲ ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ

اور ہم پر رحمت کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ اے ہمارے پروردگار!

فائدہ ۲۱ دُعائے مذکورہ ”اے رب میرے علم کو بڑھا“۔ یہ ہر بچہ، ہر بچی کو سب سے پہلے

سکھانی چاہئے تاکہ اس کی برکت سے علم میں اضافہ اور برکت حاصل ہو۔ **فائدہ ۲۲** یہ دُعا

حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کر کے مانگی گویا کہ

بیماری اور تکلیف کو دور کرنے کی دردمندی سے دُعا طلب کر رہے ہیں۔

عَنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ

عذاب دوزخ کو ہم سے پھیرے رکھ کہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔

۲۸ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہماری ازواج و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور یہ کہ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي

میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے اور تو مجھے اپنے رحم و کرم سے اپنے

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۖ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ

صالح بندوں میں داخل کرے۔ اے میرے پروردگار! میں اس بھلائی کا جو تو میری

فائدہ ۲۸ دُعَايَ مذكوره کے بارے میں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر

مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دُعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اس فتنے کے دور میں اولاد کی صحیح تربیت

اور گھر کو چین و سکون کا مرکز بنانے کے لئے اکیس نسخہ ہے۔ بارہا تجربہ ہوا ہے اس کو ورد زباں

بنائیں اور آجکل کے حالات میں اپنی نسلوں کے ایمان و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے۔

مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۳۱﴾ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ

طرف اتارے محتاج ہوں۔ اے میرے پروردگار! مجھے غالب کر دے

الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۲﴾ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

مفسد لوگوں پر۔ اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ

تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور جو تیری راہ پر چلے انہیں بخش دے اور انہیں

عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۳۳﴾ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ

دوزخ کے عذاب سے بچادے۔ اے ہمارے پروردگار! انہیں ہمیشگی کی جنتوں میں

عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ

داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو کوئی ان کے باپ دادوں میں سے

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو، بے شک تو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔

فائدہ ۳۳ دُعائے مذکورہ وہ ملائکہ جن کی ڈیوٹی عرش پر ہے ان کی طلب کردہ ہے جس میں

اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر بخشش اور جہنم سے بچاؤ کی دُعا طلب کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی جنت میں

آباؤ اجداد، اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ اکٹھا ہونے کی دُعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ بار

بار پڑھیں اور رشک کریں کہ توبہ کرنے والے کیلئے ملائکہ کس انداز سے دعائیں کر رہے ہیں۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ

اور انہیں خرابیوں سے بچادے اور جس کو تو نے اس دن خرابیوں سے بچالیا۔

فَقَدَرْنَا حَسْبَهُ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۳﴾ وَأَصْلِحْ لِي فِي

اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور میری اولاد میں صلاحیت

ذُرِّيَّتِي ط اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۵﴾ اِنِّي

نیکی کی دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ میں

مَغْلُوبٌ فَاَنْتَصِرُ ﴿۳۶﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

ہارا ہوا ہوں، پس تو میرا بدلہ لے لے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

جو ایمان میں ہمارے پیشروں ہیں بخش اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے ساتھ کدورت نہ ہونے دے۔

أَمْوَارِئِنَّا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا

اے ہمارے پروردگار! تو بڑا شفیق و مہربان ہے اے ہمارے پروردگار! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا

فائدہ ۳۳ دُعَاے مذکورہ میں اولاد کی اصلاح کے لئے دُعا سکھائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ

سبق پڑھایا جا رہا ہے یا اللہ میں مغلوب ہوں میری نصرت فرما۔ **فائدہ ۳۶** دُعَاے مذکورہ میں

اپنی مغفرت اور اپنے ان بھائیوں کی بخشش طلب کی جا رہی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس

دعا کے پڑھنے والے کیلئے اور اسکے اہل و عیال کیلئے مغفرت کی امید ہے۔

وَالَيْكَ أَنْبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں کافر لوگوں کا ہدف

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۹﴾

ستم نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے پروردگار بیشک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارا نور کامل کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر

قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي

قادر ہے۔ اے میرے رب! بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو بھی جو میرے گھر

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿۴۱﴾ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ

میں مومن ہو کر داخل ہو اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بھی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو

خَطَايَايَ بِسَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنِقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا

برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے (ایسا) پاک کر دے،

فائدہ ۴۰ یہ وہ عظیم دُعا ہے کہ جس میں اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کے ساتھ

ساتھ ہر اس مومن کیلئے بخشش کی دُعا مانگی گئی ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ نیز یہ دعا ایسا

عظیم سبق دے رہی ہے کہ ایمان والوں کی آمد و رفت اور باہمی میل جول مغفرت اور بخشش کا

ذریعہ بن رہا ہے۔

كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَعْدُ

جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور مجھ میں

بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا کہ مشرق و مغرب میں تو نے

وَالْمَغْرِبِ ﴿٢٢﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّى تَقَوُّهَا وَرَكَعًا اَنْتَ

فاصلہ رکھا ہے۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اسے پاک کر دے

خَيْرٌ مِّنْ رَّكْعَتَيْكَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا ﴿٢٣﴾ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ

تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے ہم تجھ سے وہ سب

خَيْرِ مَا سَأَلْنَا مِنْكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔

﴿٢٤﴾ اِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنِجَاتٍ اَمْرِكَ

ہم تجھ سے مانگتے ہیں مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام

فائدہ ۲۲ یہ دعائے مذکورہ آنحضرت ﷺ کی ۲۳ سالہ دعاؤں کا نچوڑ ہے۔ جس کا معنی یہ

ہے کہ یا اللہ وہ تمام بھلائیاں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا

فرما۔ **فائدہ ۲۳** اس دعا میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ مغفرت کے اسباب اور نجات

دینے والے کام کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔

وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ

اور ہر گناہ سے بچاؤ اور ہر نیکی کی لوٹ اور اپنا پہنچنا

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿۲۵﴾ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ﴿۲۶﴾ اللَّهُمَّ

بہشت میں اور دوزخ سے نجات پانا میں تجھ سے طلب کرتا ہوں علم کارآمد۔ یا اللہ

اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي خَطِيئِي وَعَمْدِي ﴿۲۷﴾ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

بخش دے میرے گناہ نادانستہ اور دانستہ۔ یا اللہ بخش دے

خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ

میری خطا اور نادانی اور میری زیادتی میرے بارہ میں اور وہ بھی جو تو مجھ سے

بِهِ مِينِي ﴿۲۸﴾ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ﴿۲۹﴾ اللَّهُمَّ

بڑھ کر جانتا ہے۔ یا اللہ بخش دے جو (گناہ) مجھے مقصود تھا اور جو غیر مقصود تھا۔ یا اللہ

مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ﴿۵۰﴾ اللَّهُمَّ

دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ

فائدہ ۳۹ اس دُعا میں دل کو استقامت اور اللہ کی اطاعت پر پابند کرنے کی عظیم درخواست

ہے۔ حرز جان بنانی چاہیے۔ **فائدہ ۵۰** یہ مختصر سی دُعا زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی ہے۔

انسان ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے رہنمائی اور مضبوطی کی دُعا مانگتا ہے۔ مسنون دُعاؤں میں

سے اس دُعا کے پڑھنے کی کثرت اکابر کے معمولات میں شامل ہے۔

اِهْدِنِي وَسِدِّدْنِي ﴿٥١﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى

مجھے ہدایت دے اور مجھے استوار رکھ۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری

وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ﴿٥٢﴾ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ

اور پارسائی اور سیرچشمی۔ یا اللہ میرا دین درست رکھ جو

هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَاىَ الَّتِيْ

میرے حق میں بچاؤ ہے۔ اور میری دنیا درست رکھ جس میں

فِيْهَا مَعٰشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ

میری معاش ہے اور میری آخرت درست رکھ جہاں مجھے لوٹنا ہے

وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ

اور زندگی کو میرے حق میں ہر بھلائی میں ترقی بنا دے۔ اور موت کو

السُّوْتِ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ﴿٥٣﴾ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے

فائدہ ۵۲ یہ دُعا جس میں دین کی حفاظت، دنیا کی حفاظت، آخرت کی درستگی اور زندگی کے

تمام لمحات میں خیر و بھلائی کی دُعا اور موت کے وقت ہر شر و فتنے سے حفاظت کی دُعا ہے۔ نیز

اس دعا میں مقصد زندگی کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ نیکوں کے اضافہ

کا باعث بنا۔ اس دعا کا ایک ایک کلمہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے۔

وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاَرْزُقْنِي ﴿۵۲﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ

اور مجھ پر رحمت کر اور مجھے چین دے اور مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں

مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ

کم ہمتی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور انتہائی کبر سنی سے

وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْشَمِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

اور قرضہ سے اور گناہ سے اور عذابِ دوزخ سے

وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ

اور دوزخ کے فتنہ سے اور قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے اور

فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ

مالداری کے بُرے فتنہ سے اور محتاجی کے بُرے فتنہ سے اور سح

فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيَا

دجال کے بُرے فتنہ سے اور زندگی و موت

فائدہ ۵۲ اس دُعا میں آنحضرت ﷺ نے چالیس ناپسند چیزوں کو ذکر کیا ہے جن سے پناہ

مانگی گئی ہے۔ مثلاً سستی، بزدلی، قرض، عذابِ قبر، کفر، غربت، گناہ ہر قسم کی بیماری غم و فکر

وغیرہ۔ اس حدیث میں نبی ﷺ نے ہماری ایک ایک حاجت کو کس طرح بیان فرمایا ہے یہ

دعا میں پتہ دے رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اس طرح تعلیم نہیں دے سکتا۔

وَالسَّمَاتِ وَمِنَ الْقُسُوفِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعِيْلَةِ

کے فتنے سے اور سخت دلی سے اور غفلت سے اور تنگدستی سے

وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ

اور ذلت سے اور بیچارگی سے اور کفر سے اور فسق سے اور ضدی سے

وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَمِنَ الصَّمِيمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُونِ

اور لوگوں کے سناوے سے اور دکھاوے سے اور بہرے پن سے اور گونگے پن سے اور جنون سے

وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَمِنَ

اور جذام سے اور بری بیماریوں سے اور بار قرضہ سے اور

الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْبُخْلِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَمِنْ أَنْ

فکر سے اور غم سے اور بخل سے اور لوگوں کے دباؤ سے اور اس سے کہ

أَسْرَدَ إِلَىٰ أَسْذَلِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ

ناکارہ عمر تک پہنچوں اور دنیا کے فتنے سے اور اس


عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا

علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو

تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔

دُنیا کے بُت کدوؤں میں پہلا یہ گھر خُدا کا
ہم اِس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا



دُعَاؤں کی قبولیت کا مرکز

نوٹ: دعائیں نکلنے ہوئے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے
اور بیت اللہ کا تصور ذہن میں جمائیں۔



دوسری منزل
بروز اتوار



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولٍ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمَنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُولِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُورُ وَالْقَبُولُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَانْشَعَبَتِ الْفُرُوعُ ۝ وَمِنَ الْاَصْوَالِ ۝ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُولُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

دوسری سنزل بروز اتوار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

رَبِّ اَعِیْنِیْ وَلَا تَعِیْنْ عَلَیَّ وَاَنْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ

اے میرے رب! میری مدد کر اور میری مخالفت میں کسی کی مدد مت کر اور مجھے فتح دے اور کسی کو میرے اوپر

عَلِیَّ وَاْمُكْرِیْیْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَیَّ وَاَهْدِنِیْ وَیَسِّرْ

غالب نہ کر اور میرے حق میں تدبیر کر اور میرے مقابلہ میں کسی کی تدبیر نہ چلا اور مجھے ہدایت کر اور میرے لئے

الْهُدٰی لِیْ وَاَنْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَیَّ رَبِّ اجْعَلْنِیْ

ہدایت کو آسان کرے اور مجھے مدد دے اس پر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب! مجھے ایسا کر دے کہ

لَكَ ذَكَرًا لَّكَ شَكَرًا لَّكَ رَهَابًا لَّكَ مِطْوَاعًا

میں تجھے بہت یاد کروں، تیرا بہت شکر ادا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرمانبرداری کروں،

فائدہ ۵۵ اس طویل دُعا میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما اور جو مجھ پر ظلم و

زیادتی کرے ان سے میری حفاظت اور میری مدد فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ گناہوں کو

معاف فرما، میری زبان کو درست فرما، میرے دل کو ہدایت نصیب فرما اور میری دُعا کو

قبول فرما۔ اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔

لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخِبًا إِلَيْكَ أَوْ أَهَامُنِيبًا ۝

تیرا بہت مطیع رہوں، تجھی سے سکون پانے والا رہوں، تیری طرف متوجہ اور رجوع ہونے والا رہوں

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي

اے میرے پروردگار! میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول کر

وَتَبَّتْ حُجَّتِي وَسَدَّدَ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ

اور میری حجت قائم رکھ اور میری زبان درست رکھ اور میرے دل کو ہدایت پر رکھ، اور میرے

سَخِيْمَةَ صَدْرِي ۝۶۱ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

سینے کی کدورت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر

وَارْضُ عَنَّا وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ

اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں بہشت میں داخل کر اور ہمیں دوزخ سے بچا دے

وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ ۝۶۲ اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ

اور ہمارے حال سب درست کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں

فَاتِدُ ۝۶۱ دعائے مذکورہ بخششِ رحم اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سوال سکھایا جا رہا ہے اور

آخر میں ایک عجیب مختصر کا سا جملہ جو ہر قاری کے ہر وقت و روز باں رہنا چاہئے اَضْلِخْ لِي

شَأْنِي كُلَّهُ جس کا معنی ہے یا اللہ ہمارے تمام احوال کو درست فرما۔ فَاتِدُ ۝۶۲ دعائے

مذکورہ مسلمانوں میں محبت اور اصلاح پیدا کرنے کا اکسیر نسخہ ہے اور اس میں ظلمتوں کے دور

قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ

الفت دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا

وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا

اور ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال۔ اور ہمیں

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَبَارِكْ لَنَا

بے حیائیوں سے جو ان میں سے ظاہری ہوں اور باطنی ہوں الگ رکھ اور ہمیں برکت دے

فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا

ہماری سماعتوں میں اور ہماری بینائیوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیویوں میں

وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

اور ہماری اولادوں میں اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تُوہی توبہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ

مہربان ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ثنا خواں بنا،

کرنے اور نور کے حاصل کرنے کی دُعا ہے۔ یہ کلمات ہر وقت ورد زبان رہنے چاہیں۔ دعا مذکورہ

میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اے اللہ ہمارے گھر میں برکت، میاں بیوی اور اولاد میں ہر طرح کی خیر

نصیب فرما اور ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور دلوں کو با برکت و منور فرما۔

بِهَاقًا بِدِيهَا وَأَتَيْتَهَا عَلَيْنَا ۵۸ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور نعمتوں کے قابل بنا اور انہیں ہم پر پورا کر۔ یا اللہ میں تجھ سے ثابت قدمی طلب

الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ

کرتا ہوں امور (دین) میں اور تجھ سے اعلیٰ صلاحیت طلب کرتا ہوں

وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ

اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر یہ کی توفیق اور حسن عبادت چاہتا ہوں

وَأَسْأَلُكَ لِسَانَ صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا

اور تجھ سے مانگتا ہوں سچی زبان اور قلب سلیم اور اخلاق

مُسْتَقِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ

صحیح، اور تجھ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

اور اس گناہ کی معافی جس کو تو جانتا ہے۔ بے شک تو ہی ہر غائب کا حال جاننے والا ہے۔

فائدہ ۵۸ دعائے مذکورہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے یا اللہ دین کے تمام کاموں میں ہمیں

ثابت قدمی نصیب فرما اور اسی طرح سچی زبان سچا دل اور تیرا شکر ادا کرنے کی اعلیٰ صلاحیت

طلب کرتا ہوں۔ اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں مجھے ان کا

شکر ادا کرنے والا بنا اور سب سے بڑی دعا یہ تعلیم فرمائی کہ یا اللہ مجھے سچی زباں عطا فرما۔

۵۹ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

یا اللہ مجھے بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ۝ اللَّهُمَّ اقْسِمُ

اور جو کچھ علانیہ کیا اور اس کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔

یا اللہ ہمیں

لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان

مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ

حائل ہو جائے۔ اور اپنی اطاعت سے اتنا حصہ کہ تو ہمیں اس کے ذریعہ سے اپنی

جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا

جنت میں پہنچادے۔ اور یقین سے اتنا حصہ کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی

مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا

مصیبتیں آسان کر دے اور کام کار کہ ہماری سماعتیں اور ہماری بینائیاں

فائدہ ۵۹ اس دُعا نے مذکورہ میں اللہ کے خوف اور ڈر کی حد بندی بیان فرمائی گئی ہے اس کا

مفہوم یہ ہے اے اللہ صرف اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور معصیتوں کے درمیان رکاوٹ بن

جائے اور وہ نیکی عطا فرما جو ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور اپنی ذات کا ایسا

سچا یقین عطا فرما کہ اس کے بعد جو مصیبت بھی ہم پر آئے وہ ہمیں آسان معلوم ہو۔ نیز اس

وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ

اور ہماری قوت کو جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اور اس کی خیر کو ہمارے بعد

مِنَّا وَاجْعَلْ شَأْنَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا

باقی رکھنا اور ہمارا انتقام اس سے لے جو ہم پر ظلم کرے اور ہمیں اس پر

عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا

غلبہ دے جو ہم سے دشمنی کرے اور ہمارے دین میں ہمارے لئے مصیبت نہ ڈال،

وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبْرَهِنًا وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا

اور دنیا کو ہمارا مقصودِ اعظم نہ بنا اور نہ ہماری معلومات کی انتہا

وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا

اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود، اور ہم پر اس کو حاکم نہ کر جو ہم پر

يَرْحَمُنَا ۞ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكِرْمِنَا

نامہربان ہو۔ یا اللہ ہمیں بڑھا، اور گھٹا مت اور ہمیں آبرو دے،

جامع دعائیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما اور ہمارے دین میں کوئی فتنہ اور مصیبت نہ ڈال اور دنیا کو ہمارا مقصد اور علم کی آخری حد نہ بنا اور جو شخص ہم پر ظلم اور زیادتی کرے تو ہماری طرف سے اس سے انتقام لے لے اور جو ہم سے دشمنی کرے ہمیں اس پر غالب رکھ اور ایسے شخص کو ہم پر حاکم نہ بنا جو بے رحم ہو یعنی ہم پر کسی ظالم حاکم کو مسلط نہ فرما۔

وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاتِرْنَا وَلَا تَوْتِرْ

اور ہمیں خوار نہ کر، اور ہمیں عطا کر، اور ہمیں محروم نہ رکھ، اور ہمیں بڑھائے رکھ اور دوسروں کو ہم

عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضِ عَنَّا ۖ اللَّهُمَّ الْهِنِّي

پر نہ بڑھا، اور ہمیں خوش رکھ اور ہم سے خوش رہ۔ یا اللہ میرے دل میں ڈال دے میری

رُشْدِي ۖ اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَأَعِزِّمْنِي

سعادت۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ، اور مجھے میرے

عَلَى رُشْدِ أَمْرِي ۖ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي

امور کی اصلاح کی ہمت دے۔ میں اللہ سے دنیا و آخرت دونوں میں

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ

عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں نیکیوں

الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ السُّكْرَاتِ وَحُبِّ السَّاكِينِ

کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی اور غریبوں کی محبت کی

فائدہ ۶۱ یہ عظیم دُعا جو زندگی کے ہر موڑ پر راہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حکیم الامت

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دُعا کے سلسلے میں عجیب بات ارشاد

فرمائی۔ فرمایا مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے میں نے یہ دُعا نہ پڑھی ہو اور پھر

فرمایا مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ میں نے یہ دُعا پڑھ کر کوئی فیصلہ کیا ہو اور مجھے پشیمانی ہوئی ہو۔

وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَسْرَدْتَ بِقَوْمٍ

اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے اور جب تو کسی جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ

فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ

کرے تو مجھے اٹھالینا پہلے اس کے کہ میں اس بلا میں پڑوں، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں،

وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى

اور اس شخص کی محبت (بھی) جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس عمل کی (بھی) محبت جو تیری محبت سے

حُبِّكَ ۶۵ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ

قریب کر دے۔ یا اللہ اپنی محبت مجھے پیاری کر دے میری

نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ السَّاءِ الْبَارِدِ ۶۶ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

جان سے اور میرے گھر والوں سے، اور سرد پانی سے بھی بڑھ کر۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت

حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ

نصیب کر اور اس شخص کی بھی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے حق میں نافع ہو۔ یا اللہ

فائدہ ۶۵ دعائے مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر اس شخص کی محبت جو محبوب خدا ہو کا ذکر

ہے یا اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی محبت عطا فرما۔ **فائدہ ۶۶** اسی طرح ہر وہ عمل جو تیری محبت

کا ذریعہ بنے وہ بھی عطا فرما اور جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے وہ ہمیں پسند آجائے اور اس کو ہمارا

معین و مددگار بنادے ان تمام کاموں میں جو تجھے پسند ہوں۔

فَكَسَّرَ نَفْسِي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلُهُ قُوَّةً لِي فِيهَا

جس طرح تو نے مجھے وہ دیا ہے جو مجھے پسند ہے، اُسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو

تُحِبُّ ۶۷ اللَّهُمَّ وَمَا نَزَّ وَبِتْ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ

تجھے پسند ہے۔ یا اللہ جو تو نے دور رکھا مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہیں تو اسے

فَأَجْعَلُهُ فَرَاغًا لِي فِيهَا تُحِبُّ ۶۸ يَا مُقَدِّبَ

میرے حق میں موجب فراغ بنا دے جو تجھے پسند ہیں۔ اے دلوں

الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ۶۹ اللَّهُمَّ

کے پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْقُضُ

میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر نہ پھرے اور ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہوں

وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور رفاقت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی

فائدہ یہ دعائے مسنون ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے۔ میرے والد حضرت مفتی محمد حسن

صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں پکار پکار کر یہ بتا رہی ہیں کہ

یہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ جو تو نے میری

مرضی اور پسند کی دعائیں کو قبول فرمایا ہے تو ان کو ذریعہ بنا دے ان چیزوں کا جو تیری محبت کا

فِي أَعْلَىٰ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ ﴿٤٠﴾ اللَّهُمَّ

جنت کے اعلیٰ ترین مقام یعنی جنت خلد میں۔ یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ

میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق

خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ

کے ساتھ اور کامیابی جس کے پیچھے تو مجھے فلاح بھی دے، اور رحمت تیری طرف سے

وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ﴿٤١﴾ اللَّهُمَّ

اور عافیت اور مغفرت تیری طرف سے اور تیری خوشنودی۔ یا اللہ

انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ۝

تو نے جو علم مجھے دیا ہے اس سے مجھے نفع دے اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دے۔

﴿٤٢﴾ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ

یا اللہ بوسیله اپنے عالم الغیب ہونے کے اور مخلوق پر قادر ہونے کے

ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اے اللہ جو تو نے میری پسندیدہ دُعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے تو اے اللہ میرے دل کو پھیر دے اس سے ان دُعاؤں کی طرف جو تجھے پسند ہیں۔ **فائدہ ۱**۔ یہ دُعا مسنون تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ سے وہ علم مانگا جائے جو نفع بخش اور کارآمد ہو۔ **فائدہ ۲**۔ اس دُعا میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے البتہ اس طرح دُعا مانگے اے

أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا إِلَيَّ وَتَوَفَّيَنِي إِذَا عَلِمْتَ

مجھے زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں زندگی میرے حق میں بہتر ہو اور مجھے اٹھالینا جب تیرے علم

الْوَفَاةَ خَيْرًا إِلَيَّ وَأَسْأَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ

میں موت میرے حق میں بہتر ہو۔ اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا ڈر غائب

وَالشَّهَادَةَ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ

و حاضر میں اور اخلاص کی بات حالت عیش و طیش میں

وَأَسْأَلُكَ نِعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ

اور تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے

وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالقَضَاءِ وَبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ

اور تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم تکوینی پر رضا مندر ہونا اور خوش عیشی

المَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى

موت کے بعد اور تیرے دیدار کی لذت اور شوق تیری

اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب وفات بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ ساتھ ہی اس دعا کی تعلیم دی گئی جو بشریت کے عین تقاضہ کے مطابق ہے یعنی اے پروردگار مجھے نعمت دینے کے بعد اس کو بقا نصیب فرما اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنے تمام احکام تکوینی پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ حسن خاتمہ کے حصول کی یہ بہترین دعا ہے۔

لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

ملاقات کا اور تیری پناہ مانگتا ہوں آزار دینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا سے

اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدًى

اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں راہنما

مُهْتَدِينَ ﴿۳﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ

راہ یاب بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں سب کی سب، فوری بھی

وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ﴿۴﴾ اللَّهُمَّ

اور دور کی بھی۔ اس میں سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ

میں تجھ سے وہ سب بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندہ اور

نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

تیرے نبی نے مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جو چیز بھی اس سے قریب کرنے والی ہو،

فائدہ ۳ اس دُعاے مذکورہ میں ہر قسم کی خیر دور ہو یا نزدیک اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ

مختصر مگر ایک عظیم دُعا ہے۔ جس میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی کو طلب کیا گیا ہے۔ **فائدہ ۴** اس

دُعاے مذکورہ میں وہ سب خیر اور بھلائی مانگی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے

مانگی۔ اور ساتھ ہی ہر اس قول اور عمل کا سوال کیا گیا ہے جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ

قول سے ہو یا عمل سے۔ اور میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اپنے ہر حکم تکوینی کو میرے حق

لِي خَيْرًا ۝ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ

میں بہتر کر دے اور میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ تو میرے حق میں جاری کرے،

تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا ۞ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي

اس کے انجام کو سعادت بنا دے۔ یا اللہ ہمارا انجام تمام کاموں

الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِدْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

میں اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے

الْآخِرَةِ ۞ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي

محفوظ رکھ۔ یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ قائم رکھ کھڑے ہوئے، اور اسلام کیساتھ

بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَأَحْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا ۞ وَلَا

قائم رکھ بیٹھے ہوئے۔ اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ لیٹے ہوئے، اور

فائدہ ۷۵ یہ مسنون دُعا ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے تمام

کاموں کا انجام بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ **فائدہ ۷۶** اس

دعا میں دونوں جہاں کی خیر اور بھلائی طلب کر لی گئی ہے یعنی ہمیں اسلام کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ اور

اسلام کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر اور طعن سے ہمیں بچا۔

نَشِيتَ بِيْ عَدُوٍّ وَّوَلَا حَاسِدًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ

مجھ پر طعنہ کا موقع نہ دے، نہ کسی دشمن کو اور نہ کسی حاسد کو یا اللہ میں تجھ سے سب بھلائیوں

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيْدِكَ ۝ وَاَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ

مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور تجھ سے وہ بھلائی بھی مانگتا ہوں جو

الَّذِيْ هُوَ بِيْدِكَ كُلِّهِ ۝ اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا

تمام تر تیرے ہی قبضہ میں ہے۔ یا اللہ! ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ

اَلْاَغْفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ

جسے تو نہ بخش دے اور نہ کوئی تشویش جسے تو دور نہ کر دے۔ اور نہ کوئی قرضہ ایسا جسے تو ادا نہ کر دے

وَلَا حَاجَةَ مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا

اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے ایسی جسے تو پوری نہ کر دے،

يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰی ذِكْرِكَ

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یا اللہ ہماری امداد کراپنے ذکر

فائدہ ۷۷ اس دُعاے مذکورہ میں ہر قسم کے گناہوں کی معافی ہر قسم کے فکر و پریشانی سے نجات

ہر قسم کے قرضے سے خلاصی اور مختصر یہ کہ دنیا و آخرت کی تمام حوائج کو اس میں لپیٹ لیا گیا ہے۔

فائدہ ۷۸ یہ دُعاے مسنون اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا

کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے یا اللہ اپنے ذکر شکر اور عمدہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ﴿۷۹﴾ اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِسَارِقَتِي

اور اپنے شکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں۔ یا اللہ مجھے قناعت دے، اس میں جو تو نے دیا

وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ ۝

اور اس میں میرے لئے برکت دے۔ اور ہر غیب چیز میں میرا نگران رہ خیریت کے ساتھ۔

﴿۸۰﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً وَمَمْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا

یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں زندگی پاکیزہ اور موت ڈھنگ کی اور ایسی مراجعت

غَيْرَ مَخْذِيٍّ وَلَا فَاضِحٍ ﴿۸۱﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي

جس میں میرے لئے رسوائی اور فضیحت نہ ہو۔ یا اللہ میں کمزور ہوں پس اپنی مرضیات

سِرِّضَاكَ ضَعْفِيٍّ وَخُذْ لِي الْخَيْرَ بِبِئَابِيَّتِي وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ

میں میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دے اور کشاں کشاں مجھے خیر کی طرف لے جا، اور اسلام کو میری

مُنْتَهَى رِضَائِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَرْزُقْنِي ۝

پسند کا منتہا بنا دے، میں ذلیل ہوں سو مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں سو مجھے رزق دے۔

فائدہ ۷۹ اس دُعاے مسنونہ میں رزق میں قناعت کی دُعا کی تلقین کی جا رہی ہے حرص و طمع

اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مست لوگوں کے لئے یہ دُعا مفید ہے۔ **فائدہ ۸۱** اس

دُعاے مسنونہ میں انسان اپنی بے بسی، اپنے ضعف کا واسطہ دے کر یہ عرض کر رہا ہے کہ اے

اللہ تو میری بے بسی کو دیکھ اور اپنی خاص فضل و کرم سے مجھے خیر کی طرف لے جا۔

۸۲ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ السَّأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ

یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں بہترین سوال اور بہترین دعا اور بہترین کامیابی

وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ

اور بہترین عمل اور بہترین اجر، اور بہترین زندگی اور بہترین موت۔

وَتَبَيَّنْتَنِي وَثَقَّلْتُ مَوَازِينِي وَحَقَّقْتُ أَيْمَانِي وَارْفَعُ دَرَجَتِي

اور مجھے ثابت قدم رکھ اور میری نیکیوں کا پلہ بھاری کر، اور میرے ایمان کو متحقق کر اور میرا درجہ بلند کر

وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

اور میری نماز کو قبول کر۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت کے بلند درجے

أَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ

آمین۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر کی ابتدا بھی اور انتہا بھی،

وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ اللَّهُمَّ

اور خیر کی جامع چیزیں اور خیر کا اول بھی اور خیر کا آخر بھی اور خیر کا ظاہر اور خیر کا باطن۔ یا اللہ

فائدہ ۸۲ دعائے مذکورہ میں درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ میدان حشر میں میزان

عدل پر جب نیکیاں تولی جائیں تو نیکیوں کا پلڑا وزنی فرما۔ اور یہ درخواست کی گئی کہ یا اللہ

میرے ایمان کو مضبوط فرما، نمازوں کو قبول فرما اور میرا آغاز بھی خیر کے ساتھ اور میرا

انجام بھی خیر پر فرما۔

إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتَىٰ وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا

میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اپنے ہر اس کام میں جسے اعضاء سے کروں یا دل سے

أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطْنِ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ ۸۳ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ

کروں اور اس کی بھی خیر جو پوشیدہ ہے اور جو علانیہ ہے۔ یا اللہ میرا رزق خوب فراخ

رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَأَنْقِطَاءِ عُمْرِي ۸۴ وَاجْعَلْ خَيْرَ

کردینا میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت۔ اور میری عمر کا بہترین حصہ

عُمْرِي أَخْرًا وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ

اس کا آخری حصہ کرنا اور میرا بہترین عمل میرا آخر ترین عمل کرنا اور میرا بہترین دن وہ کرنا

الْقَاكَ فِيهِ ۝ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ ثَبِّتْنِي بِهِ

جس میں تجھ سے ملوں۔ اے اسلام اور اہل اسلام کے مددگار مجھے ثابت قدم رکھ اسلام پر

حَتَّى الْقَاكَ ۝ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا مَوْلَايَ ۝

یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں۔ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں اپنی اور اپنے متعلقین کی سیرِ چشمی۔

فائدہ ۸۳ اس دُعاے مذکورہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑھاپا جس میں آدمی کے اعضاء

کمزور پڑ جاتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات میں رزق کی وسعت اور کشادگی کی دُعا تعلیم فرما

کر ہماری کمزوری اور بے بسی کے لئے سہارا فرما دیا ہے۔ اور ساتھ ہی درخواست کی گئی کہ اے

اللہ جس دن آپ سے ملاقات ہو وہ میری زندگی کا بہترین دن اور کامیابی والا دن بنا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُرْوَةِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ

یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری عمر سے اور دل کے فتنہ سے۔

أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي وَمِنْ

تیری پناہ مانگتا ہوں بہ واسطہ تیری عزت کے کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے اور

جُهِدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَهَاتَةِ

بلا کی سختیوں سے اور بد قسمتی کے حصول سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے

الْأَعْدَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

طعنہ سے اور اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور ہر اس کام کی برائی سے جسے میں نے نہیں کیا

وَمِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَمِنْ

اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم ہے اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم نہیں اور تیری

زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاءِ تَوَقُّفِكَ

نعمت کے جاتے رہنے سے اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے اور تیرے عذاب کے آجانے سے

فائدہ ۸۵ اس دُعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس تکلیفوں کا ذکر فرما کر ہمیں ہر

قسم کی بلا اور مصیبت سے بچنے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کا عظیم نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ مثلاً بلا

کی مشقت، بد بختی، دشمنوں کے طعنے، گمراہی، نعمتوں کے زوال، عافیت کے پلٹنے، فاقہ وغیرہ سے

پناہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر موت کے وقت شیطان کے مکر اور چالاکی سے

وَجَمِيعِ سَخَطِكَ وَمِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ

اور تیری ناخوشی سے اور اپنی شنوائی کی خرابی سے اور اپنی بینائی کی

بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ

خرابی سے اور اپنی زبان کی خرابی سے اور اپنے دل کی خرابی سے اور اپنی

شَرِّ مَنِيٍّ وَمِنَ الْفَاقَةِ وَمِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ

منی کی خرابی سے اور فاقہ سے اور اس سے کہ میں کسی پر زیادتی کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی کرے

وَمِنْ الْهَدَمِ وَمِنَ التَّرَدِّيِّ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ

اور کسی چیز کا اوپر گر جانے سے اور میرا کسی پر گر پڑنے سے اور ڈوب جانے سے اور جل جانے سے

وَأَنْ يَّتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ

اور اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت گڑبڑ میں ڈال دے اور اس سے

أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لِدَيْغًا

کہ میں جہاد سے بھاگتا ہوا مروں اور اس سے کہ میں جانور کے ڈسنے سے مروں۔

حفاظت کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس دعا میں تمیں ایسی مصیبتوں و بلاؤں اور پریشانیوں کا

نام لیکر ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ اس طرح دعائیں اور ان مصیبتوں سے بچنے کیلئے کیسی پاکیزہ

تعلیم دی جا رہی ہے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ ﷺ کے ہماری ایک ایک تکلیف کا ذکر

فرما کر ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ سے دعائیں مانگو۔



تیسری منزل
بروز پیر



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولٍ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مُحَمَّدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمُنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُولِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُورُ وَالْقَبُولُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَانْشَعَبَتِ الْفُرُوعُ ۝ وَمِنَ الْاَصْوَالِ ۝ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُولُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

تیسری منزل بروز پیر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۸۶ ﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَّاجْعَلْنِي شَكُورًا﴾

یا اللہ مجھے بڑا صبر والا بنا دے اور مجھے بڑا شکر والا بنا دے

وَّاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَّفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ

اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں

كَبِيرًا ﴿اللّٰهُمَّ ضَعْ فِيْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزَيْنَتَهَا

بڑا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت رکھ دے اور شادابی رکھ دے

وَسَكْنَهَا وَلَا تَحْرِمْنِيْ بَرَكَتَ مَا اَعْطَيْتَنِيْ وَلَا

اور امن رکھ دے اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ رکھ اور جس چیز سے

فائدہ ۸۶ اس دُعائے مسنونہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا

اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ جس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہ

میں کبھی بڑا نہ سمجھے اور ساتھ ہی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل نہ

کرے۔ اس کے پڑھنے والے کیلئے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوگا۔

تَفْتِنِي فِيهَا أَحْرَمْتَنِي ۞ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ

تو نے مجھے محروم رکھا مجھے فتنہ میں نہ ڈال۔ یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت بھی

خَلْقِي ۞ وَأَذْهَبُ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجْرُنِي مِنْ مُضَلَّاتِ

اچھی کر دے اور میرے دل کی تنگی دور کر دے، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے

الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا ۞ اللَّهُمَّ لَقِّنِي حُجَّةَ

مجھے بچائے رکھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ یا اللہ مجھے موت کے وقت

الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ ۞ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

حجت ایمان تلقین کر دے۔ اے میرے رب! میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی

هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

مانگتا ہوں جو آج کے دن میں ہو اور جو اس کے بعد ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں

خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ

بھلائی آج کے دن کی اور اس کی فتح اور اس کی ظفر اور اس کا نور اور اس کی برکت

فائدہ ۸۸ یہ دُعاے مسنونہ آئندہ دیکھتے وقت پڑھنا مسنون ہے مفہوم کتنا پیارا ہے کہ اے

اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ **فائدہ ۸۹** یہ مختصر دعا

ہر وقت دروزبان رُخنی چاہئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ موت کے وقت مجھے ایمان اور کلمہ

طیبہ نصیب فرما۔

وَهْدَا لَنَا ۙ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اور اس کی ہدایت۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں معافی اور امن

فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي

اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں۔ یا اللہ میرا عیب ڈھانپ دے

وَأَمِنْ رَوْعَتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ

اور خوف کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ میری حفاظت کر میرے آگے سے

وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ

اور پیچھے سے اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے اور میرے

فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ۝

اوپر سے۔ اور میں تیری عظمت کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں کہ ناگہاں اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي

یا حی یا قیوم! میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ درست کر دے

فائدہ ۹۲ یہ دعا آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بار بار سوال کرنے پر

تلقیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ مختصر اور عظیم دعا ہے کہ جس کی یہ دعا قبول ہوگی اس کو دونوں جہاں کی راحتیں

نصیب ہوگی۔ مفہوم اس دعا کا یہ ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں معافی کا اور دین و دنیا میں عافیت کا۔

فائدہ ۹۳ دعائے مذکورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آنحضرت ﷺ کثرت سے اسکی تلاوت

شَانِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ۝

میرے سارے حال کو اور مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحہ کے لئے بھی نہ سونپ۔

۹۴ ❁ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ

میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے جس سے روشن ہیں آسمان

وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ

وزمین اور ہر اس حق کے واسطے سے جو تیرا ہے، اور اس حق کے واسطے سے جو مانگنے والے کو

عَلَيْكَ أَنْ تُقِيلَنِي وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ

تجھ پر ہے، کہ تو مجھ سے درگزر کرے اور یہ کہ مجھے پناہ دے دوزخ سے

بِقُدْرَتِكَ ۹۵ ❁ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ

اپنی قدرت سے یا اللہ آج کے دن کے اول حصہ کو میرے حق میں

صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَأَخِرَهُ نَجَاحًا أَسْأَلُكَ

بہتر بنادے اور درمیانی حصہ کو فلاح اور اس کے آخری حصہ کو کامیابی۔ میں تجھ سے دنیا

فرماتے ہمارے اساتذہ اور مشائخ نے اس دعا کی کثرت کو ہر مصیبت اور پریشانی کے دور

کرنے کے لئے اکسیر نسخہ فرمایا۔ **فاتحہ ۹۵** دعائے مذکورہ کے مفہوم پر ذرا غور کریں کہ اس میں

صبح، دوپہر، شام کی تمام بھلائیاں مانگی جا رہی ہیں اور آخر میں خلاصہ کہ اے ارحم الراحمین دنیا اور

آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۶﴾ اللَّهُمَّ

اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں اے سب سے بڑے مہربان۔ یا اللہ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاحْسَبْ شَيْطَانِي وَفُكِّ رِهَانِي وَثَقِّلْ

میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو دور کر دے اور میرا بند کھول دے اور بھاری کر دے

مِيزَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى ﴿۹۷﴾ اللَّهُمَّ قِنِي

میرا پلہ اور مجھے طبقہ اعلیٰ میں شمار کر دے۔ یا اللہ مجھے اپنے

عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ﴿۹۸﴾ اللَّهُمَّ رَبَّ

عذاب سے بچا دینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائیو۔ یا اللہ پروردگار ساتوں

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا

آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے اور اے رب زمینوں کے اور جسے وہ ہیں

أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيْطَانِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا

اٹھائے ہوئے اور اے رب شیطانوں کے اور جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ میرے نگہبان رہو

فَاتِدِ ۹۷ یہ دعا آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا بہترین وسیلہ ہے۔ فاتدہ ۹۸ اس دعا

میں ساتوں آسمان اور زمینوں کا واسطہ دے کر عجیب درخواست تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ

مجھے اپنی تمام مخلوق کی شرارتوں سے محفوظ فرماتا کہ مجھ پر کوئی ظلم یا زیادتی نہ کرے بڑا بابرکت

تیرا نام ہے۔

مَنْ شَرَّ خَلْقِكَ أَجْبَعِينَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ

تمام مخلوق کی برائی سے۔ اس سے کہ مجھ پر ظلم کرے

أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْفِيَ عَزَّجَارُكَ وَتَبَارَكَ

کوئی ان میں سے یا تعدی کرے۔ محفوظ تیرا ہی پناہ دیا ہوا ہے اور بابرکت ہے

أَسْئَلُكَ ۹۹ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ تُسَبِّحُكَ

تیرا نام کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ پاک ہے تو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ

یا اللہ میں تجھ سے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي

یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور مجھے میرے گھر میں وسعت دے

وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي ۱۰۰ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

اور مجھے میرے رزق میں برکت دے۔ یا اللہ مجھے کر دے بہت

فائدہ ۱۰۰ اس دعائے مذکورہ میں عجیب دعا سکھائی گئی کہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور

میرے گھر کو وسیع اور کشادہ فرما اور میرے رزق میں برکت اور خیر عطا فرما۔ موجودہ فتنوں کے

دور میں وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي دعا کا مفہوم ذہن میں رکھیے اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ فتنوں

سے بچاؤ کے لئے گھر کی چار دیواری سے باہر بلا ضرورت نہ نکلا جائے

مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بہت پاک صاف لوگوں میں کر دے۔

۱۰۲ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَأَسْرِزُقْنِي وَعَافِنِي ۝

یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے

وَاهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ۝

اور جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو اس میں مجھے اپنے حکم سے راہ صواب دکھا دے۔

۱۰۳ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي

یا اللہ نور کر دے میرے دل میں اور نور کر دے میری

نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا

بینائی میں اور نور کر دے میری شنوائی میں اور نور کر دے میری داہنی طرف

وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي

اور نور کر دے میری بائیں طرف اور نور کر دے میرے پیچھے اور نور کر دے میرے سامنے

فائدہ ۱۰۳ یہ دعائے مسنونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔

اس قدر پیارے پیارے کلمات ہیں کہ جس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا اللہ دل میں نور

آنکھوں میں نور کانوں میں نور دائیں بائیں اوپر نیچے گوشت خون ہر چیز میں نور ہی نور کا سوال

کیا گیا ہے۔ اور قرآنی دعاؤں میں اس نور کی دعا کو شامل کیا گیا ہے۔

نُورًا وَّاجْعَلْ لِّي نُورًا وَفِي عَصَبِي نُورًا

اور میرے لئے ایک خاص نور کر دے اور نور کر دے میرے پٹھوں میں

وَفِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَهْيِ نُورًا وَفِي شَعْرِي

اور نور کر دے میرے گوشت میں اور نور کر دے میرے خون میں اور نور کر دے میرے بالوں میں

نُورًا وَفِي بَشْرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَّاجْعَلْ

اور نور کر دے میری جلد میں اور نور کر دے میری زبان میں اور نور کر دے

فِي نَفْسِي نُورًا وَّاعْظِمْ لِي نُورًا وَّاجْعَلْنِي نُورًا

میری جان میں اور مجھے نور عظیم دے اور مجھے سراپا نور کر دے

وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا

اور میرے اوپر نور عطا کر دے۔ اور میرے نیچے نور کر دے

اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا ۱۰۴ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ

اے اللہ مجھے نور عطا کر دے یا اللہ ہم پر کھول دے دروازے

فائدہ ۱۰۴ اس دُعا میں رحمت کے دروازوں کے کھولنے کا سوال اور رزق کے دروازوں کے آسان کرنے کی درخواست تعلیم فرما کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا اور اس کے حصول کے لئے اللہ سے سوال موجب اجر و ثواب ہے اور یہی دُعا مسجد میں داخلے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ رزق کے تمام دروازوں کو ہمارے لئے آسان فرمادے۔

رَحْمَتِكَ وَسَهَّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ ۝

اپنی رحمت کے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لئے آسان کر دے۔

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ ۱۰۶ اللَّهُمَّ إِنِّي

یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۱۰۷ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ

تیرے (فضل و کرم) کا طالب ہوں۔ یا اللہ میری کل خطائیں

وَذُنُوبِي كُلِّهَا اللَّهُمَّ انْعَشِنِي وَأَحْيِنِي

اور قصور بخش دے یا اللہ مجھے رفعت دے اور مجھے زندہ رکھ

وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ

اور مجھے رزق دے اور مجھے اچھے اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت دے،

إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا

بے شک نہ خوش اعمالیوں کی طرف کوئی رہبری کرتا ہے اور نہ بد اعمالیوں سے کوئی بچاتا ہے سوا

فائدہ ۱۰۵ یہ مختصر سی آدمی لائن کی دُعا موجودہ فتنے کے دور میں جہاں شیطان نے ہر چہار

طرف سے ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر حملہ کیا ہے اور ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی

سازشیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں اس پر فتن حالات میں یہ دُعا ہماری حفاظت کا

کام دے گی۔ یہ دعا اپنے اہل و عیال کو ورد زبان رکھنی چاہئے۔

۱۰۸ ﴿۱۰۸﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا طَیِّبًا وَعِلْمًا نَّافِعًا

تیرے۔ یا اللہ میں تجھ سے رزق پاکیزہ طلب کرتا ہوں اور علم کارآمد

وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا ﴿۱۰۹﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ

اور عمل مقبول۔ یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں

عَبْدِكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ نَاصِبَتِیْ بِیَدِكَ مَا ضَرَفِیْ

تیرے بندہ کا، اور بیٹا ہوں تیری بندگی کا، ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، نافذ ہے میرے بارے میں

حُكْمُكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ

تیرا حکم۔ عین عدل ہے میرے باب میں تیرا فیصلہ۔ میں تجھ سے ہر اس اسم کے واسطے سے

هُوَلَاکَ سَبَّیْتُ بِهٖ نَفْسَکَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِیْ

جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے یا اس کو اتارا ہے

کِتَابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِکَ

اپنی کتاب میں یا اسے بتایا ہے کسی کو اپنی مخلوق میں سے

فَاتِۃ ۱۰۸ یہ دُعَاۃٓ مَسْنُوۡنَہٗ اَخْبَرَت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آب زم زم نوش

فرمانے کے بعد پڑھی تھی۔ کیسی پیاری دُعَاۃٓ ہے کہ جس میں پاکیزہ رزق کارآمد علم اور مقبول عمل کی

درخواست کی گئی ہے فَاتِۃ ۱۰۹ یہ طویل دُعَاۃٓ جس میں اپنی عبدیت کا واسطہ دے کر درخواست کی جا رہی

ہے اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دل کی بہار آنکھوں کا نور، ہر غم اور فکر کی دوری کا سبب بنا دے۔

أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ

یا اپنے پاس اسے غیب ہی میں رہنے دیا ہے، یہ کہ میں

تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِّعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي

درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری آنکھ کا نور

وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ۱۱۰ اللَّهُمَّ إِلَهَ

اور میرے غم کی کشائش، اور میری تشویش کا دفعیہ۔ یا اللہ! معبود

جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَاللَّهِ اِبْرَاهِيمَ

جبرائیل کے، اور میکائیل کے اور اسرافیل کے اور معبود ابراہیم کے

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَافِيًا وَلَا تُسَلِّطَنَّ

اور اسماعیل کے اور اسحاق کے مجھے عافیت دے اور میرے اوپر

أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَىٰ بَشِيءٍ لِّي بِي ۝

اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو۔

فائدہ ۱۱۰ اس دُعا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام

اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے نام لے کر ان کے خدا کا

واسطہ دے کر یہ عجیب دُعا طلب کی جا رہی ہے اے اللہ عافیت نصیب فرما اور اپنی مخلوق میں

سے ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا کہ جس کی برداشت اور طاقت مجھ میں نہ ہو۔

۱۱۱ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچالے

وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنِ سِوَاكَ ۱۱۲ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ

اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔

تَسْمَعُ كَلَامِيْ وَتَرَى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ

میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے میرے پوشیدہ

وَعَلَانِيَّتِيْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِيْ

اور ظاہر کو۔ تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی

وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ

اور میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں،

الْوَجِلُّ الْمُسْتَفِيقُ الْمُقَدِّرُ الْمَعْتَرِفُ بِذُنُوبِيْ أَسْأَلُكَ

ترساں ہوں، ہراساں ہوں اقراری ہوں معترف ہوں گناہوں کا، سوال کرتا ہوں

فائدہ ۱۱۱ یہ دُعا موجودہ حالات میں قرض میں دے ہوئے اور پسے ہوئے لوگوں کے لئے

اکسیر نسخہ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو

عطا فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رزق حلال میں کفایت عطا فرما اور اپنے ماسوا

سے مجھے بے پروا کر دے۔ **فائدہ ۱۱۲** یہ طویل دُعا اپنے اندر عجیب مفہوم رکھتی ہے جس میں

مَسْئَلَةُ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالًا

جیسے بیکس سوال کرتے ہیں۔ اور تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں، جیسے گنہگار

الْمُذْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ

ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے۔ اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ

الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ

آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو

وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتَهُ وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ

اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک

لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ

تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ یا اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ، اور میرے حق

بِئْرٍ رَعُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ

میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا! اے سب مانگنے والوں سے بہتر! اے سب دینے

انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میرا کوئی کام آپ سے

پوشیدہ نہیں۔ میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں فریادی ہوں پناہ تلاش کر رہا ہوں خوف زدہ

حراساں ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں یہ ایک بے کس کا سوال اور ایک رورود کردعا

پیش کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ان دعاؤں میں ناکام نہ فرما۔

الْمُعْطِينَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ

والوں سے بہتر! یا اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنے ضعف قوت کا اور اپنی

حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ

کم سامانی کا اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم وقعتی کا۔ اے سب سے بڑھ کر

الرَّحِيمِينَ إِلَى مَنْ تَكُنُنِي إِلَى عَدُوِّ يَتَهَجَّبُنِي

رحم کر نیوالے! تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے! آیا کسی دشمن کے جو مجھے دبائے!

أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَمْلُكَتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ تَكُنْ

یا کسی دوست کے قبضہ میں میرے سب کام دے رہا ہے! تو اگر مجھ سے

سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي غَيْرَ أَنْ عَافَيْتَكَ

ناخوش نہ ہو تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی تیرا دیا ہوا امن ہی میرے لئے

أَوْ سَعُرِي ۱۱۳ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا وَأَوَاهَةً

زیادہ گنجائش رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو بہت تاثر قبول کر نیوالے ہوں،

فائدہ ۱۱۳ یہ دعائے مسنونہ طائف کے میدان میں جو آنحضرت ﷺ کی زندگی کا سب

سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن وقت تھا۔ ان تمام پریشانیوں کا واسطہ دے کر حضور ﷺ

نے یہ درخواست کی اے اللہ اگر میری ان تکالیف و پریشانی میں آپ کی رضا اور خوشنودی ہے تو

مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں اور اے اللہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے امن و چین عطا فرمادیں۔

مُخِبَّةٌ مُنِيبَةٌ فِي سَبِيلِكَ ۱۱۴ اللَّهُمَّ إِنِّي

بہت عاجزی، بہت رجوع کرنے والے ہوں تیری راہ میں۔ یا اللہ میں تجھ

أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا

سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ یقین

صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا

پختہ جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو

كَتَبْتَ لِي وَرَضِي مِّنَ الْبَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ

میرے لئے لکھ چکا ہے اور اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں سے میرے حصہ میں

لِي ۱۱۵ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا

کردی ہے۔ یا اللہ تیرے واسطے کل تعریف ہے جیسی کہ تو فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر

مِمَّا نَقُولُ ۱۱۶ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

جو ہم کہتے ہیں۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں

فائدہ ۱۱۶ اس دُعاے مسنونہ میں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور برے پڑوسی سے پناہ مانگ

کر ایک عظیم سبق سکھا دیا اور دشمن کے غلبہ اور ان تمام فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں

ان سے بھی پناہ مانگنے کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ دُعاے مذکورہ میں اعمال اور اخلاق کی درستگی کا

سوال سکھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں

مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

ناپسندیدہ اخلاق سے اور اعمال سے اور نفسانی خواہشوں سے

وَالْأَذْوَاءِ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ

اور بیماریوں سے اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے

نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ جَارِ

تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور مستقل

السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ

قیامگاہ میں برے پڑوسی سے اسلئے کہ سفر کا ساتھی تو چل

يَتَحَوَّلُ وَغَلْبَةَ الْعَدُوِّ وَشَرَّ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ

ہی دیتا ہے۔ اور دشمن کے غلبہ سے، اور دشمنوں کے طعنہ سے اور

الْجُودِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَمِنْ الْخِيَانَةِ فَبِئْسَتْ

بھوک سے کہ وہ بری ہنجواب ہے، اور خیانت سے کہ وہ بری

جس سے نبی ﷺ نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما نیز برے دن بری رات اور بری گھڑی اور برے ساتھی سے محفوظ فرما آمین۔ اس دعا کو بغور پڑھیں اور اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو کس طرح آنحضرت ﷺ نے ہمیں ایسی پیاری دعائیں سکھلا کر ہماری حاجات اور ضروریات کا کس قدر لحاظ فرمایا ہے

الْبَطَانَةُ وَأَنْ نَّرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا وَمِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَمِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ

ہمراز ہے اور اس سے کہ ہم پچھلے پیروں لوٹ جائیں۔ یا فتنہ میں پڑ کر الگ ہو جائیں دین سے اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اور

یوم السوء اور بری رات سے اور بری گھڑی سے

برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے

وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ

اور برے ساتھی سے۔

○

اور برے ساتھی سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عرصہ کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ۸۰ مرتبہ یہ درود پڑھے اُس کے ۸۰ سال کے گناہ معاف ہونگے اور ۸۰ سال کی عبادت کا تو اب اس کے لیے کچھ جائیگا



پوتھی منزل
بروز منگل



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولٍ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمَنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُوْلِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُوْرُ وَالْقَبُوْلُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَانشَعَبَتِ الْفُرُوْعُ ۝ مِنَ الْاَصُوْلِ ۝ ثُمَّ نَسْئَلُكَ بِسَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُوْلُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُوْلُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

چوتھی منزل بروز منگل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱۱۷ **اللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايْ وَمَمَاتِيْ وَآلِيْكَ**

یا اللہ تیرے ہی لئے ہے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور تیری ہی طرف

۱۱۸ **مَا بِيْ وَ لَكَ رَبِّ تُرَاتِيْ ۙ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ**

ہے میرا رجوع اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں

۱۱۹ **خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهٖ الرِّياحُ ۙ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَعْظَمُ**

ان چیزوں کی جنہیں ہوائیں لاتی ہیں۔ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیرا بڑا

۱۲۰ **شُكْرًا وَاكْثَرُ ذِكْرًا وَاَتَّبِعْ نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظْ**

شکر کروں اور تیرا ذکر بہت کرتا رہوں اور تیری نصیحتوں کو مانتا رہوں اور تیری ہدایتوں

فائدہ ۱۱۷ اس دُعاے مذکورہ میں یہ عظیم درس دیا جا رہا ہے کہ ہماری نمازیں ہماری قربانیاں بلکہ

ہماری زندگی کی تمام تر عبادتیں اور عادتیں اللہ ہی کی رضا کی نیت سے ہونی چاہیں۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ایسا بیان فرمادیا کہ ذرا سا زاویہ نگاہ درست کر لیا جائے

تو ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا عبادت بنا دیا گیا ہے۔ **فائدہ ۱۱۹** اس دُعا میں

وَصِيَّتَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِينَا وَجَوَارِحَنَا

کو یاد رکھوں۔ یا اللہ ہمارے دل اور ہم خود سرتاپا اور ہمارے اعضا تیرے ہی

بِيَدِكَ لَمْ تُسَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذْفَعْتَ ذَلِكَ

قبضہ میں ہیں تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں دیا پس جب تو نے ہمارے ساتھ

بِنَافِكُنْ أَنْتَ وَلِيَّتْنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ

یہ کیا ہے تو تو ہی ہمارا مددگار رہو، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے رہو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ

یا اللہ اپنی محبت کو میرے لئے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے ڈر

خَشِيَّتِكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي

کو میرے لئے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے اور مجھے اپنی ملاقات

حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ

کا شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھ سے قطع کر دے۔ اور جہاں تو نے

درخواست کی گئی کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں کثرت سے تیرا ذکر کروں۔ تیری نصیحتیں

مانوں اور تیری ہدایتوں کو مانوں۔ یا اللہ ہمارے دل اور ہمارے تمام اعضاء آپ کے قبضے میں

ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے محافظ بنیں اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیں۔

فائدہ ۱۲۰ دُعَا ئے مذکورہ میں اللہ کی محبت اور کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بننے کی

أَعِينْ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرُرْ عَيْنِي

دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں میری آنکھ ٹھنڈی رکھ

مِنْ عِبَادَتِكَ ۱۲۱ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ

اپنی عبادت سے یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تندرستی کی

وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ

اور پاکبازی کی اور امانت کی اور حسن خلق کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی۔

۱۲۲ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ السُّنُّ فَضْلًا اللَّهُمَّ

یا اللہ تیری تعریف ہے شکر کے ساتھ اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح احسان کرنا، یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ

میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں اعمال کی جو تجھے پسند ہوں

وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ

اور تجھ پر سچے توکل کی اور تیرے ساتھ نیک گمان رکھنے کی۔

درخواست کی گئی ہے اور اللہ کے ڈر کو تمام چیزوں سے زیادہ ڈر بنانے کی درخواست کی گئی ہے

اور اللہ کی ملاقات کی تمنا اور آخر میں یہ درخواست کہ میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کر

دے۔ **فائدہ ۱۲۱** یہ مختصر سی عجیب و غریب دُعا ہے جس میں صحت، امانت، حسن خلق اور تقدیر

پر راضی رہنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔

۱۲۳ **اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي**

یا اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لئے کھول دے اور مجھے نصیب کر

طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ ۱۲۴ **اللَّهُمَّ**

فرمانبرداری اپنی اور فرمانبرداری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل تیری کتاب پر۔ یا اللہ

اجْعَلْنِي أَحْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى الْقَاكَ

مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھ سے ڈرا کروں گویا میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تجھ سے آملوں

وَاسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ ○

اور مجھے تقویٰ سے سعادت دے اور مجھے شقی نہ بنا اپنی معصیت سے۔

۱۲۵ **اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ**

یا اللہ ہر دشوار کو آسان کر کے مجھ پر فضل و کرم کر دے تیرے لئے ہر دشواری

عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي

کو آسان کر دینا آسان ہی ہے۔ اور میں تجھ سے دنیا و آخرت دونوں ہی میں سہولت اور معافی

فَاتِد ۱۲۳ دُعَاے مذکورہ میں عجیب انداز سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی

فکر اور خشیت ڈال دیجئے اس طرح کہ گویا میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے تقویٰ کی سعادت

نصیب فرما اور آخر میں یہ درخواست کہ اے اللہ مجھے اپنی نافرمانی کی وجہ سے شقی اور بد بخت نہ فرما۔

فَاتِد ۱۲۵ دُعَاے مذکورہ میں انسان کو اپنی بے بسی عاجزی دشواری اور مشکل کا واسطہ دے کر دنیا اور

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ ۝

کی درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھ سے درگزر کر۔ تو تو بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔

۱۲۶ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ

یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے،

وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ

اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے تجھ پر تو روشن ہیں

خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۲۷ اللَّهُمَّ

آنکھوں کی چوریاں بھی، اور جو کچھ دل چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی۔ یا اللہ

ارْشُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ

مجھے برسنے والی آنکھیں نصیب کر جو دل کو تیری

بِذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ

خشیت کی بنا پر بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کر دیں بغیر اس کے کہ

آخرت کی سہولت طلب کر رہا ہے اور آخر میں اللہ کی صفت کری می کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کا

سبق تعلیم دیا جا رہا ہے۔ اکبرالہ آبادی نے اس مفہوم کو کیا خوب صورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔

۔ اک میرے دل کو خوش کرنے پہ کیا وہ قادر نہیں اک کن سے جس نے دونوں جہاں کو پیدا کر دیا

فائدہ ۱۲۶ اس دُعا کو بار بار پڑھئے کہ جس میں دل کا نفاق، ریا، جھوٹ اور آنکھ کی خیانت اور

الدُّمُوعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا ﴿۱۲۸﴾ اللَّهُمَّ عَافِنِي

آنسو خون ہو جائیں اور کچلیاں انگارے بن جائیں۔ یا اللہ مجھے امن چین دے

فِي قُدْرَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقِضْ أَجَلِي فِي

اپنی قدرت سے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے اور میری عمر اپنی اطاعت میں

طَاعَتِكَ وَأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ عَلَيَّ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ

گزار دے اور میرا خاتمہ میرے بہترین عمل پر کر اور اس کی جزا

الْجَنَّةَ ﴿۱۲۹﴾ اللَّهُمَّ فَارِحِ الْهَمَّ كَأَشْفِ الْغَمِّ مُجِيبَ

جنت دے۔ یا اللہ فکر کے دور کرنے والے غم کے زائل کرنے والے، بے قراروں

دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا أَنْتَ

کی دعا کے قبول کرنے والے، دنیا کے رحمن اور رحیم، مجھ پر تو

تَرَحُّمِنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ

ہی رحم کرے گا، تو میرے اوپر ایسی رحمت کر کہ تو اس کی بنا پر مجھے اپنے سوا

دل میں چھپے ہوئے گناہوں کی تطہیر اور صفائی کی درخواست کی جا رہی ہے **فائدہ ۱۲۹** دُعَائِ

مذکورہ میں فکر و غصہ اور بے قراری کے الہ کی دعا سکھائی جا رہی ہے اور آخر میں رحمن و رحیم کی

صفت کا واسطہ دے کر یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! میں آپ کی ایسی رحمت کا طالب

ہوں جو مجھے ہر ایک سے تیرے سوا مستغنی کر دے۔

رَحْمَةً مِّنْ سِوَاكَ ۝۱۳۰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

ہر ایک کی رحمت سے مستغنی کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں

فُجَاءَةً الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ ۝

بھلائی غیر متوقع اور تیری پناہ ناگہانی برائی سے

۱۳۱ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ

یا اللہ تیرا ہی نام سلام ہے اور تجھی سے سلامتی کی ابتداء ہے اور تیری ہی طرف ہر سلامتی

السَّلَامُ أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُسْتَجِيبَ

لوٹی ہے۔ اے صاحب عزت و جلال میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمارے حق میں

لِنَادَعُوتِنَا وَأَنْ تُعْطِيَنا رَغْبَتِنَا وَأَنْ تُغْنِيَنَا عَنَّا

ہماری دعا قبول کر لے اور تو ہماری خواہشیں پوری کر دے اور تو نے اپنی مخلوق میں سے جن کو

أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ ۝۱۳۲ اللَّهُمَّ خذْ لِي

جس سے غنی کر دیا ہے، ان سے ہم کو بھی غنی کر دے۔ یا اللہ تو ہی میرے لئے (چیزوں کو) چھانٹ لے

فائدہ ۱۳۱ دُعَايَ مذکورہ میں اللہ کی صفت ذوالجلال والاکرام کا واسطہ دے کر درخواست کی

جا رہی ہے اے اللہ! ہماری دعا کو قبول کر لے اور ہمارے مقاصد ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں

اپنی مخلوق سے مستغنی کر دے۔ **فائدہ ۱۳۲** اس دعا کو احادیث میں مختصر استخارہ سے تعبیر کیا

گیا ہے اس میں سائل بن کر یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! جس میں خیر ہو میرے

وَاخْتَرْتَنِي ﴿۱۳۳﴾ اللَّهُمَّ ارْضِنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي

اور پسند کر لے۔ یا اللہ مجھے اپنی مشیت پر راضی رکھ اور جو کچھ میرے لئے مقدر

فِي مَا قَدَّرَ لِي حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا

کر دیا گیا ہے اس میں مجھے برکت دے تاکہ جو چیز تو نے دیر میں رکھی ہے اس کے لئے میں

أَخَّرْتُ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ﴿۱۳۴﴾ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ

جلدی نہ چاہوں اور جو چیز تو نے جلد رکھی ہے اس میں میں دیر نہ چاہوں۔ یا اللہ عیش تو بس عیش

إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ ﴿۱۳۵﴾ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْكِينًا وَ

آخرت کا ہے اس کے سوا کوئی عیش نہیں۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ اور

أَمْتِنِي مُسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ ۝

خاکساری ہی کی حالت میں موت لا اور خاکساروں ہی میں مجھے اٹھا

﴿۱۳۶﴾ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا

یا اللہ مجھے ان میں سے کر دے کہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں

لئے وہ عطا فرما اور میرے لئے جس میں خیر و بھلائی ہو وہ منتخب فرما۔ **فائدہ** ۱۳۳ اس دُعا میں

ایک عجیب حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم ہمارے دلوں میں رچا دے۔ جس

میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے۔ یہ دنیا کا عیش بھی کوئی عیش ہے؟

اگر ساری دنیا کی دولت بھی کسی کو مل جائے تو کتنے دن کا عیش ہے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ

وَإِذَا أَسَاءُ وَالسُّتُغْفِرُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً

اور جب بُرائی کرتے ہیں تو مغفرت مانگتے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری خاص رحمت کی

مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي

درخواست کرتا ہوں جس سے میرے دل کو ہدایت کر دے اور میرے کاموں کو جمعیت دے

وَتِلْمٌ بِهَا شَعْبِي وَتُصْلِحُ بِهَا دِينِي وَتَقْضِي

اور اس سے میری ابتیری کو درست کر دے، اور اس سے میرے دین کو سنوار دے، اور اس سے میرے

بِهَا دِينِي وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا

قرضہ کو ادا کر دے اور اس سے میری نظر سے غائب چیزوں کی نگہبانی کر اور میرے پیش نظر

شَاهِدِي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي

چیزوں کو بلندی عطا کر، اور اس سے میرا چہرہ نورانی کر دے اور اس سے میرا عمل پاکیزہ کر دے

وَتُلْهِمْنِي بِهَا رَشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْنِي

اور اس سے رشد میرے دل میں ڈال دے اور اس سے میرے حال مالوف کو لوٹا دے

نے کیا خوب کہا ہے۔

عیش دنیا کے ہیں کتنے دن کے لئے کھونہ جنت کے مزے ان کے لئے

یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے تنکے لئے

فائدہ ۱۳۷ یہ ایک طویل دُعا ہے جس میں رحمت خاص کی دُعا کی جارہی ہے جس کی

وَتَعْصِنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ ۱۳۸ اللَّهُمَّ اعْطِنِي

اور اس کے واسطے سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا

إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ

ایمان دے جو پھر نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو،

وَرَحْمَةً أَنَا لِبِهَا شَرَفٌ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا

اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعہ سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے ہاں کی عزت کا

وَالْآخِرَةِ ۱۳۹ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي

شرف پالوں۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں امورِ تکوینی میں

الْقَضَاءِ وَنُزُلِ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشِ السُّعَدَاءِ وَمُرَافَقَةِ

کامیابی، اور شہیدوں کی سی مہمانی اور سعیدوں کا ساعیش اور رفاقت

الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ إِنَّكَ سَمِيعٌ

انبیاء کی اور دشمنوں پر فتح، بے شک تو ہی دعاؤں کا

وضاحت یہ ہے کہ ایسی رحمت عطا فرما جس سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے اور ایسی

رحمت عطا فرما جس سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور آخر میں ایسی رحمت عطا فرما جو مجھے

ہر برائی سے بچالے **فائدہ ۱۳۸** اس دعا میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اے اللہ ایمان کی

دولت عطا فرمانے کا بعد ہمیں پھر مرتد نہ فرمانا۔

الدُّعَاءُ ۱۲۰ ﴿اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعْفَ

سننے والا ہے۔ یا اللہ جو بھلائی بھی ایسی ہو کہ اس تک پہنچنے سے میری سمجھ قاصر رہ گئی ہو اور میرا

عَنْهُ عَلَيَّ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مُنِيَّتِي وَمَسْأَلَتِي مِنْ

عمل وہاں تک نہ ساتھ دے سکا ہو اور اس تک میری آرزو اور میرے سوال کی

خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ

رسائی نہ ہو، اور تو نے اس بھلائی کا وعدہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو یا جو ایسی بھلائی

مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ

ہو کہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ دینے والا ہو تو میں تجھ سے اس کی خواہش

فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۲۱ ﴿اللَّهُمَّ

اور تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے طلب کرتا ہوں اے عالموں کے پروردگار۔ یا اللہ

إِنِّي أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعْفَ

میں اپنی خواہش تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں گو میری سمجھ کوتاہی کرے اور میرا عمل

فائدہ ۱۲۱ دُعَاءِ مذکورہ میں ایک عاجز انسان اپنی ناتجہی کا واسطے دے کر یہ درخواست کر رہا

ہے کہ میری تمام تمنائیں اور خواہشیں تیرے سپرد ہیں۔ میرے عمل میں کمی ہے تیری رحمت کا

محتاج ہوں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جس طرح تو نے سمندروں میں فاصلہ رکھا ہے

اسی طرح مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے دور رکھنا۔

عَلَىٰ افْتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ

ضعیف رہے، میں محتاج ہوں تیری رحمت کا تو اے سب کاموں کے پورا کرنے والے

وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ

اور اے دلوں کو شفا دینے والے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے سمندروں کے

تُجِيرُنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ

درمیان فاصلہ رکھا ہے، اسی طرح مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور جزع فزع سے

الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ ۱۳۲ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ

اور فتنہ قبور سے ایسے ہی فاصلہ پر رکھیو۔ یا اللہ مضبوط

الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْإِمْنَ يَوْمَ

ڈور والے اور درست حکم والے میں تجھ سے حشر میں امن کی طلب

الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةِ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ

کرتا ہوں اور آخرت میں جنت کی، ان لوگوں کے ساتھ جو مقرب ہیں

فائدہ ۱۳۲ دعائے مذکورہ میں حشر کے دن امن کا سوال سکھایا جا رہا ہے اور مقربین کے ساتھ

ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا سوال کیا جا رہا ہے اور آخر میں یہ درخواست کی گئی کہ اے اللہ تو بڑا مہربان

اور شفیق ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہماری درخواست کو قبول فرما۔

الشُّهُودِ الرَّكْعِ السُّجُودِ السُّوفِيْنَ بِالْعَهْدِ

حاضر باش ہیں بڑے رکوع، سجدہ کرنے والے ہیں اور اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں۔

اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ وَّ اِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ ۝

بے شک تو بڑا مہربان ہے بڑا شفیق ہے، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔

۱۲۳۳ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرِ ضَالِّيْنَ وَلَا

یا اللہ ہمیں بنا دے راہنما راہ یاب (نہ کہ بے راہ اور بھٹکانیوالے)

مُضِلِّيْنَ سَلْمًا لِاَوْلِيَاءِكَ وَحَرْبًا لِاَعْدَائِكَ

اور اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن

نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ

ہم اسی کو دوست رکھیں جو تجھے دوست رکھتا ہو اور دشمن رکھیں اسے جو تیرا

خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ ۱۲۳۴ اللّٰهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ

نافرمان ہو تیری مخلوق میں سے یا اللہ دعا ہے

فائدہ ۱۲۳۳ یہ دعائے مذکورہ ہر دُعا کے آخر میں مانگنی چاہیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ اس

عاجز نے درخواست پیش کر دی ہے قبول کرنا تیرا کام ہے اور بھروسہ بھی تیرے ہی اوپر ہے اور

اے اللہ اس عاجز کو اس کے نفس کے حوالے ایک پلک بھر کے لئے بھی نہ کر اور اے اللہ جو تو نے

مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ مجھ سے واپس نہ لے۔

وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ

اور قبول کرنا تیرا کام ہے، اور کوشش یہ ہے اور بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے

اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا

یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالہ ایک پلک بھر کے لئے بھی نہ کر اور

تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي ۱۳۵ اللَّهُمَّ إِنَّكَ

جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، وہ مجھ سے واپس نہ لے۔ یا اللہ تو ایسا

لَسْتَ بِاللَّهِ اسْتَدْنَا وَلَا بِرَبِّ يَبِيدُ ذِكْرُهُ

خدا تو نہیں ہے جسے ہم نے گڑھ لیا ہو اور نہ ایسا پروردگار جس کا ذکر ناپائیدار ہے کہ ہم نے

ابْتَدَعْنَا وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يَقْضُونَ مَعَكَ وَلَا كَانِ

اسے اختراع کر لیا ہو، اور نہ تیرے اور ساتھی ہیں جو حکم میں تیرے شریک ہیں، اور نہ تجھ سے

لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهٍ نَدْبَجُ إِلَيْهِ وَنَذُرُكَ وَلَا

پہلے ہی ہمارا کوئی خدا تھا جس سے ہم پناہ حاصل کرتے رہے ہوں اور تجھ کو چھوڑ دیتے ہوں اور

فائدہ ۱۳۵ اس دعا میں درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارا کوئی اور خدا نہیں اور نہ آپ کا

کوئی اور شریک ہے اے اللہ ہمارا آخری سہارا صرف آپ کی ذات ہے آپ ہی سے

درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت اور بخشش فرما۔

اَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا أَحَدٌ فَشَرِكُكَ فَيْكَ

نہ کسی نے ہمارے پیدا کرنے میں تیری مدد کی ہے کہ ہم اس کو تیرے ساتھ شریک سمجھیں

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَسَأَلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تو بابرکت ہے اور تو برتر ہے پس ہم تجھ سے اے وہ کہ سوا تیرے کوئی معبود نہیں درخواست کرتے ہیں کہ تو

اغْفِرْ لِي يَا اللَّهُ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوْفُّهُهَا

ہمیں بخش دے۔ یا اللہ تو ہی نے میری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے موت

لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا

دے گا تیرے ہی ہاتھ میں اس کا مرنا اور اس کا جینا ہے۔ تو اگر اسے زندہ رکھتا ہے تو اس کی ایسی

بِنَاتُحْفُظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ أَمَّتْهَا فَاغْفِرْ

حفاظت کر جیسی کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اگر تو اسے موت دیتا ہے تو اسے

لَهَا وَارْحَمْهَا يَا اللَّهُ أَعِزِّي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ

بخش دینا اور اس پر رحم کرنا۔ یا اللہ مجھے مدد دے علم دے کر اور مجھے آراستہ کرو قار دے کر

فائدہ ۱۳۶ اس دُعا میں اللہ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے آپ ہمارے خالق ہیں اور آپ

کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی

حفاظت فرما جیسی تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور موت دے تو اے اللہ بخشش اور رحم کا

معاملہ فرما۔ **فائدہ ۱۳۷** اس دُعا میں علم و قار تقویٰ اور امن و چین کو خوبصورت انداز میں

وَ أَكْرَمَنِي بِالتَّقْوَىٰ وَجَدَلَنِي بِالْعَافِيَةِ ﴿۱۳۸﴾ اللَّهُمَّ لَا

اور مجھے بزرگی دے تقویٰ دے کر، اور مجھے جمال دے امن چین دے کر۔ یا اللہ

يُدْرِكُنِي زَمَانٌ وَلَا يُدْرِكُوا زَمَانًا لَا يُتَّبَعُ فِيهِ

مجھے وہ زمانہ نہ پائے، اور نہ یہ لوگ اس زمانہ کو پائیں جس میں نہ پیروی کی جائے

الْعَلِيمُ وَلَا يَسْتَحْيِي فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبٌ

صاحب علم کی اور نہ صاحب حلم کا لحاظ کیا جائے اور ان کے دل عجیبوں کے

الْأَعَاجِمِ وَالسُّنْتُهُمُ السُّنَّةُ الْعَرَبِ ﴿۱۳۹﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي

سے ہو جائیں اور ان کی زبانیں اہل عرب کی سی رہ جائیں۔ یا اللہ میں

أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تَخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا

تجھ سے وعدہ لیتا ہوں جسے تو ہرگز نہ توڑیو، کہ میں بھی آخر

بَشَرٌ فَإِنَّمَا مَوْمِنٍ أَذِيَّةٌ أَوْ شَتْمَةٌ أَوْ

بشر ہوں جس کسی مسلمان کو میں تکلیف دوں، یا اسے بُرا بھلا کہوں یا

طلب کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں کا سوال سکھلا دیا۔ **فائدہ ۱۳۹** اس دُعا میں رسول معصوم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمتیوں کو عظیم سبق سکھا دیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ میں بشر

ہوں اگر میں کسی کو تکلیف دوں برا بھلا کہوں یا بددُعا دوں تو اے اللہ! تو اس بددُعا کو اس کے حق میں رحمت

بنادے۔ اللہ اکبر کیسی پاکیزہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس میں بددُعا کو بھی رحمت کی دُعا بنا دیا گیا ہے۔

جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَوةً وَزَكَاةً

اسے ماروں پیٹوں یا اسے بد عادوں تو اس سب کو تو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی بنا دیجیو

وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ ۝۱۵۰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اور قربت کا ذریعہ، جس سے تو اس کو مقرب بنالے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں

مِنَ الْبَرَصِ وَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ

برص سے اور ضد اضدی سے اور نفاق سے اور برے

الْأَخْلَاقِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ

اخلاق سے اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے علم میں ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں

أَهْلِ النَّارِ وَمِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ

اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے اور ہر اس چیز سے جو اس سے قریب کرے

قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ

خواہ وہ قول ہو یا عمل اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضہ میں ہے۔

فائدہ ۱۵۰ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاق سے، برے اخلاق سے، اور ہر اس چیز

کی برائی سے جس کو آپ جانتے ہیں اے اللہ میرے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمادے تاکہ

ان کی وجہ سے میں جہنم کے قرب سے بچ جاؤں اور اس میں آج کے دن اور بعد والے دن کی

شرارتوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ

اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے اور ہر اس برائی سے

مَا بَعْدَهُ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ

جو اس کے بعد ہے اور اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے

وَشَرِّكَهِ وَأَنْ نَّقْتَرِفَ عَلَى أَنْفُسِنَا سُوءًا أَوْ

اور اسکے شرک سے اور اس سے کہ ہم کسی شر کو اپنے اوپر لگائیں یا اسے

نَجْرَةً إِلَى مُسْلِمٍ أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا

کسی مسلمان تک پہنچائیں یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں

لَا تَغْفِرُهُ وَمِنْ ضَيْقِ الْقِيَامَةِ ۝

جسے تو نہ بخشے اور قیامت کے دن تنگی سے۔



اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا جس کی بنا پر میری مغفرت نہ ہو سکے اور قیامت کے دن کی سختیوں اور تکالیف سے بچا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے جنت بھی بھرنی ہے بلا حساب تو ہمیں جنت میں عطا فرما حضرت مجذوبؑ نے خوب کہا ہے۔

کر ڈوں کو تو کرے گا جنتی ایک یہ نا اہل بھی ان میں سہی

کی محمد ﷺ سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں



گنبدِ خضرا کا پر کیف نظارہ

نوٹ: ہر منزل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں
یہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ (صفحہ نمبر ۶۴ پر ملاحظہ فرمائیں)



پانچویں منزل
بروز بدھ



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولِ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمَنَاجَاتِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُوْلِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُوْرُ وَالْقَبُوْلُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرف

وَانشَعَبَتِ الْفُرُوْعُ ۝ وَمِنَ الْاَصُوْلِ ۝ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُوْلُ ۝ وَمِنَ السُّؤَالِ ۝ وَمِنْكَ الْقَبُوْلُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

پانچویں منزل بروز بُدھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱۵۱ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۱۵۲ اللَّهُمَّ إِنِّي

یا اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ کر دے اور مجھ پر میرے کام آسان کر دے۔ یا اللہ میں

أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ

تجھ سے مانگتا ہوں وضو کا کمال اور نماز کا کمال اور تیری

رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ ۱۵۳ اللَّهُمَّ اعْطِنِي

خوشنودی کا کمال اور تیری مغفرت کا کمال۔ یا اللہ میرا نامہ اعمال

كِتَابِي بَيِّنِي ۱۵۴ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ

میرے داہنے ہاتھ میں دیجیو۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے

فاتحہ ۱۵۱ دُعَاے مذکورہ میں عجیب تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی حرام کاری میں مبتلا ہو

اور اس گناہ سے بچ جانے کی آرزو دل میں ہو تو اس دُعَا کا صدق دل سے مانگنا اس گناہ سے

بچاؤ کی صورت پیدا کر دے گا۔ فاتحہ ۱۵۲ دُعَاے مذکورہ میں وضو نماز اور اللہ کی رضا اور بخشش کا کمال

طلب کر کے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مومن کا کام عبادات میں کوشش کر کے مرتبہ کمال تک پہنچنا ہے۔

وَجَنِّبْنِي عَذَابَكَ ۱۵۵ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي يَوْمَ

اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ میرے قدم ثابت رکھنا جس دن کہ

تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ ۱۵۶ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِينَ ۱۵۷

قدم ڈگمگانے لگیں گے۔ یا اللہ ہمیں فلاح یاب بناؤ۔

اللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ وَاتِّمِّمْ عَلَيْنَا

یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے قفل کھول دے اور ہم پر اپنی

نِعْمَتِكَ وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا

نعمت کو پورا کر، اور ہم پر اپنے فضل کو پورا کر، اور ہمیں

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۱۵۸ اللَّهُمَّ اتِنِي أَفْضَلَ

اپنے نیک بندوں میں سے کر لے۔ یا اللہ مجھے وہ سب سے بڑھ

مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ۱۵۹ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا

کر دے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھ

فائدہ ۱۵۶ دُعَاے مذکورہ آدھی لائن سے بھی مختصر ہے لیکن ایک وسیع ترین مفہوم ہے اس کا یعنی اللہ سے

دنیا آخرت ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے نجات اور دونوں جہاں کی نعمتوں کے حصول کا اس میں سبق ہے۔

فائدہ ۱۵۸ دُعَاے مذکورہ میں اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا سوال کیا گیا ہے جو اللہ اپنے نیک

بندوں کو دیتا ہے جس میں درخواست یہ کر رہا ہے کہ مجھے ان سب سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرما۔

وَأْمِنِي مُسْلِمًا ﴿١٦٠﴾ اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ وَالْقِيَامِ فِي

اور مسلمان ہی مار۔ یا اللہ کافروں کو عذاب دے اور ان کے

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَنْزَلْ

دلوں میں ہیبت بٹھا دے اور ان کی بات میں اختلاف پیدا کر دے، اور ان پر

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابِكَ ۝ اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ أَهْلَ

اپنا قہر و عذاب نازل کر یا اللہ کافروں کو عذاب دے، چاہے وہ اہل

الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَمْجِدُونَ آيَاتِكَ وَيُكَذِّبُونَ

کتاب ہوں یا مشرک بہر حال جو بھی تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کی

رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَتَعَدَّوْنَ

تکذیب کرتے ہیں اور تیری راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور تیری مقرر کی ہوئی حدوں

حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ الْهَآخِرَةَ إِلَّا أَنْتَ

سے تجاوز کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتے ہیں حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوا تیرے

اس میں سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے انسان ہمیشہ بڑے سے بڑے انعام کی تمنا کرتا

ہے۔ اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوْا كِبِيرًا

بارکت ہے تو اور ہر طرح نہایت درجہ برتر ہے تو اس سے کہ جو یہ ظالم کہتے ہیں۔

۱۶۱ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

یا اللہ تو مجھے بخش دے اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ

اور تمام اسلام والوں اور اسلام والیوں کو اور انہیں سنوار دے اور ان کی صلح کر دے

بَيْنَهُمْ وَالْفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

آپس میں اور ان کے دلوں میں الفت دے اور ان کے دلوں میں ایمان

وَالْحِكْمَةَ وَبَيِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ

اور حکمت رکھ دے اور انہیں اپنے رسول کے دین پر ثابت قدم رکھ اور انہیں توفیق دے

أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ

کہ جو نعمت تو نے انہیں نصیب کی ہے اس کا وہ شکر کرتے رہیں اور

فَات ۱۶۱ دُعَاةٌ مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ التَّعْلِيمِ دِي جَارِ هِيَ هِيَ كَمَا مَغْفِرَتِ وَبَخْشِشِ كِي دُعَا جِبِ اِپْنِي لِي

طلب کرے تو تمام ایمان والوں مردوں اور عورتوں کے لئے بھی مانگتا رہے اور ساتھ ہی یہ سبق

بھی سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں مصالحت اور دلوں میں الفت اور حکمت اور ایمان

بھی طلب کرتا رہے۔ حدیث میں ایک مضمون یہ آیا ہے کہ جو بندہ صبح و شام تمام مسلمانوں کی

يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَانصُرْهُمْ

جو وعدہ تو نے ان سے لیا ہے اسے وہ پورا کرتے رہیں اور انہیں اپنے اور

عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ۗ إِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ

ان کے دشمنوں پر غالب رکھ۔ اے معبود برحق تو پاک ہے کوئی معبود سوا تیرے

غَيْرُكَ ۗ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاصْلِحْ لِي عَمَلِي ۗ إِنَّكَ

نہیں ہے۔ میرے گناہ بخش دے اور میرے عمل درست کر دے بے شک

تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَن تَشَاءُ ۗ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

تو ہی گناہ بخش دیتا ہے جس کے چاہتا ہے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ تَبَّ عَلَيَّ يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي

اے بخشنے والے مجھے بخش دے۔ اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر،

يَا عَفُوفُ اَعْفُ عَنِّي يَا رَوْفُ ارْوِفْ بِي يَا رَبِّ

اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر، اے مہربان مجھ پر مہربانی کر، اے پروردگار

مغفرت و بخشش کی دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور مرحومین کی تعداد

کے برابر نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی اس دعا میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے جو ہر

وقت انسان کے پیش نظر رہے کہ یا اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے تاکہ اس درستگی پر عمل کر

کے اپنی مغفرت اور بخشش حاصل کر سکیں۔

أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ

مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے اس کا شکر ادا کروں اور

طَوَّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ مِنْ

مجھے طاقت دے کہ تیری عبادت اچھی طرح کروں۔ اے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں

الْخَيْرِ كُلِّهِ يَا رَبِّ افْتَحْ لِي بِخَيْرٍ وَاخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ

بھلائی سب کی سب، اے پروردگار میرا آغاز خیر کے ساتھ کر اور میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر،

وَوَقِنِي السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط

اور مجھے برائیوں سے بچالے اور جسے تو نے برائیوں سے اس دن بچالیا بے شک تو نے اس پر رحم ہی کیا،

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۶۲﴾ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ

اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ! تیرے لئے تعریف ہے ساری اور تیرے ہی لئے

الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيدِكَ

شکر ہے سارا اور تیرے لئے ہے حکومت ساری اور تیرے لئے مخلوق ہے ساری، تیرے ہاتھ

فائدہ ۱۶۲ مذکورہ دُعائیں خدا کی توحید کے اقرار کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک

درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! میرے غم، فکر اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ساتھ ہی اعتراف

بھی کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں تیری حمد و ثناء کے ساتھ چل رہا ہوں۔

(اے اللہ مجھے گناہوں سے بچالے اور جس کو تو نے گناہوں سے بچالیا اس نے تیرا رحم پالیا)

الْخَيْرُ كُلُّهُ وَالْيَاكُفُورُ كُلُّهُ أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ

میں بھلائی ہے ساری اور تیری ہی طرف امور رجوع ہوتے ہیں تمام میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی ساری

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ كُلِّهِ ۖ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ۖ

اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تمام برائیوں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ۝ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ

یا اللہ مجھ سے فکر اور غم دور فرما دے یا اللہ میں تیری حمد کے ساتھ

انصرفتُ وِبدنبي اعترفتُ ۖ اللَّهُمَّ الْهَيُّ وَاللهِ اِبْرَاهِيمَ

چلتا پھرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے معبود، اور معبود ابراہیم

وَاسْحَقَّ وَيَعْقُوبَ وَاللهِ جَبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ

اور اسحاق اور یعقوب کے، اور معبود جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے

أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي فَإِنَّا مُضْطَرُّوْنَ

میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری عرض قبول کر لے کہ میں بے قرار ہوں۔

فائدہ ۱۶۳ دعائے مذکورہ میں ملائکہ مقربین اور انبیاء علیہم السلام کا واسطہ دے کر التجاء کی

جار رہی ہے کہ میری دعا کو قبول فرما۔ اپنی بے بسی اور بے بسی کا واسطہ دے کر درخواست کی جا رہی

ہے کہ اے اللہ! میں بلا میں پڑا ہوں گناہ گار ہوں میرے سارے مسائل حل فرما۔ انسان ساتھ

اس کا بھی اقرار کرتا رہے کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔

وَتَعَصِنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلِيٌّ وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ

اور مجھے میرے دین میں محفوظ رکھ کہ میں بلا میں پڑا ہوا ہوں۔ اور اپنی رحمت میرے شامل حال رکھنا

فَإِنِّي مُذْنِبٌ وَتَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسِكٌ ۝

کہ میں گنہگار ہوں، اور مجھ سے محتاجی دور رکھنا، کہ میں بے کس ہوں۔

۱۶۵ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنَّ

یا اللہ میں تجھ سے ہر اس حق سے مانگتا ہوں جو سالکوں کا تجھ پر ہے۔ کیونکہ بے شک

لِلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا أَيَّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِنْ أَهْلِ

سالکوں کا تجھ پر حق ہے کہ خشکی اور تری کے جس کسی بھی غلام یا باندی نے تجھ سے کوئی

الْبِرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلَتْ دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ

دعائیں مانگی ہوں اور تو نے انکی دعائیں قبول کی ہوں،

أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَا يَدْعُونَكَ فِيهِ وَإِنْ

تو ہمیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو وہ تجھ سے مانگیں اور تو انہیں

فاتدہ ۱۶۵ دُعاء مذکورہ میں عجیب انداز سے دُعاء سکھلائی جا رہی ہے جس میں خصوصیت سے یہ

ذکر ہے کہ اے اللہ! تو اپنے تمام مقبول اور مستجاب الدعوات بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اور

عافیت و قبولیت کے ساتھ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اور اس بندے کا تعلق خشکی سے ہو یا تری

سے جہاں جہاں بھی تیرے مقبول بندے دعائیں طلب کر رہے ہوں ہمیں ان میں شامل فرما۔

تُشْرِكُهُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدْعُوكَ فِيهِ وَأَنْ

ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو ہم تجھ سے مانگیں اور یہ کہ

تُعَافِينَا وَإِيَّاهُمْ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَأَنْ تَجَاوِزَ

تو ہمیں اور انہیں چھین دے، اور تو ہماری اور ان کی دعائیں قبول کر اور یہ کہ تو ہم سے

عَنَّا وَعَنْهُمْ فَإِنَّا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

اور ان سے درگزر کر۔ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٦٦﴾ اللَّهُمَّ اِنَّا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ

پس ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ۔ یا اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت کر

وَاجْعَلْ فِي الْمِصْطَفَيْنِ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْأَعْلَىٰ دَرَجَتَهُ

اور آپ ﷺ کی محبوبیت برگزیدہ لوگوں میں کر دے اور آپ ﷺ کا مرتبہ عالی لوگوں میں

وَفِي الْمُقَرَّبِينَ ذِكْرَهُ ﴿١٦٧﴾ اللَّهُمَّ اهْدِنِي مِنْ

اور آپ کا ذکر اہل تقرب میں۔ یا اللہ مجھے اپنے ہاں سے ہدایت

فَاتَهُ ۱۶۶ دُعاء مذکورہ میں نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کے لیے اس مقام وسیلہ کی

درخواست کی گئی ہے جس کا نبی کریم ﷺ کے لیے وعدہ کیا گیا ہے یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جس

مرتبہ پر فائز ہو کر آپ کو اپنی امت کی شفاعت کا اذن حاصل ہوگا کس قدر رحمت ہے ہمیں محض

اس کے طلب کرنے پر شفاعت بھی مل رہی ہے جو جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنے گی۔

عِنْدَكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ

نصیب کر، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مستفید کر، اور مجھ پر اپنی

رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ ﴿١٦٨﴾ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

رحمت کامل کر، اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر۔ یا اللہ مجھے بخش دے

وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

اور مجھ پر رحم کر، اور میری توبہ قبول کر، تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔

﴿١٦٩﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ

یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اہل ہدایت کی سی اور عمل

أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ

اہل یقین کے سے اور اخلاص اہل توبہ کا سا اور ہمت

أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ

اہل صبر کی سی اور کوشش اہل خوف کی سی اور طلب اہل

فائدہ ۱۶۹ دُعاء مذکورہ میں ہدایت کی دُعاء مانگی جا رہی ہے اور موت تک پیارے انداز میں

استقامت کی دُعا طلب کی جا رہی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اہل ہدایت جیسی توفیق،

اہل یقین جیسا عمل، اہل توبہ جیسا اخلاص، اہل صبر جیسی ہمت عطا فرما۔ اس دعا کا تعلق اپنے منزل کو

پالے گا اور ان شاء اللہ محروم اور مردود نہ ہوگا۔

الرَّغْبَةِ وَتَعْبُدَ أَهْلَ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ

شوق کی سی اور عبادت اہل تقویٰ کی سی اور معرفت اہل علم کی سی

حَتَّىٰ أَلْقَاكَ ۖ يَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً

یہاں تک کہ میں تجھ سے مل جاؤں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ خوف مانگتا ہوں

تَحْجُرْنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ

جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ تاکہ میں تیری اطاعت کے ایسے

عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّىٰ أَنْصَحَكَ بِالتَّوْبَةِ

عمل کروں کہ تیری خوشنودی کا مستحق ہو جاؤں اور تاکہ میں تجھ سے ڈر کر تیرے سامنے

خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّىٰ أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً

خالص توبہ کروں۔ اور تاکہ تجھ سے شرم کر تیرے روبرو خلوص کو صاف

مِنْكَ وَحَتَّىٰ أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا

کروں اور تاکہ تجھ پر بھروسہ کروں کل کاموں میں

فائدہ ۱۰۷ اس دُعا میں اللہ جل شانہ سے اس درجہ کے خوف کا سوال ہے کہ جس سے انسان اللہ

تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائے اور نیکیوں کو حاصل کرے اور پھر یہ التجاء کرے کہ اے اللہ میں کسی

حق یا وصیت کی طرف سے غفلت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اے اللہ! اچانک ہلاک نہ کرنا اور نہ ہی

اچانک کسی مصیبت میں گرفتار کرنا۔ اور ایسا خوف عطا فرما جو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہو۔

وَحُسْنَ ظَنِّكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ اللَّهُمَّ لَا تُهْلِكُنَا

تجھ سے نیک گمان طلب کرتا ہوں۔ پاک ہے تو اے نور کے پیدا کرنیوالے۔ یا اللہ ہم کو ہلاک نہ کرنا

فُجَاءَةً وَلَا تَأْخُذْنَا بَعْتَةً وَلَا تَغْفِلْنَا عَنْ حَقِّ

ناگہاں اور نہ ہم کو اچانک پکڑنا اور نہ ہمیں کسی حق و وصیت کی طرف

وَالْأَوْصِيَّةِ يَا اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحُشْتِي فِي قَبْرِي

سے غفلت میں رکھنا۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس پیدا کر دینا

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا

یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل میں رحم کرنا اور اسے میرے حق میں رہبری اور نور

وَهْدَى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكَّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلَّمْنِي

اور ہدایت اور رحمت بنا دینا۔ یا اللہ مجھے یاد کرادے اس میں سے جو کچھ بھول گیا ہوں اور مجھے سکھا

مِنْهُ مَا جَهَلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أَنْاءَ اللَّيْلِ

دے اس میں سے جو کچھ نہ جانتا ہوں، اور مجھے اس کی تلاوت نصیب کردن اور رات کے

فائدہ ۱۔ اس دُعاء میں قبر کی وحشت، تاریکی اور تنہائی کی جگہ انس و محبت کی درخواست کی

جا رہی ہے اور پھر قرآن عظیم کے وسیلہ سے رحم و کرم طلب کیا جا رہا ہے یہی دُعا ختم قرآن کریم

کے موقع پر ہر قرآن کریم کے آخر میں لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو عذابِ قبر سے محفوظ

فرما۔ اور قرآن کریم کی صبح و شام تلاوت کی توفیق عطا فرما۔

وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

اوقات میں اور اسے میرے لئے حجت بنا دے، اے پروردگار عالم۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ

یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے بندہ کا اور بیٹا ہوں تیری بندی کا

نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ وَأُصَدِّقُ بِبِقَائِكَ

ہمہ تن تیری ہی مٹھی میں ہوں، تیرے قبضہ میں چلتا پھرتا ہوں۔ تیرے ملنے کی تصدیق کرتا ہوں

وَأَوْمِنُ بِوَعْدِكَ أَمْرَتَنِي فَعَصَيْتُ وَنَهَيْتَنِي فَأَتَيْتُ

اور تیرے وعدہ پر یقین رکھتا ہوں، تو نے حکم دیا، میں نے نافرمانی کی، اور تو نے روکا میں نے ارتکاب کیا،

هَذَا مَكَانُ الْعَائِدِينَ مِنَ النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

یہ جگہ دوزخ سے پناہ لینے کی تیرے ذریعے سے ہے کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے

سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ

تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ہمیں بخش دے بے شک کوئی نہیں بخش سکتا

فائدہ ۱۷۲ اس دُعاء میں یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ میں کل کا کل تیرے قبضہ میں ہوں

اور تیرے وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ اے اللہ! میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی جس کام

سے تو نے مجھے روکا اسی کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی

ہی جان پر ظلم کیا اب تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں تیری رحمت کا واسطہ تو ہم کو بخش دے۔

الدُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ ۖ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمَشِيئَةُ

گناہوں کو سوا تیرے۔ یا اللہ تجھی کو ہر تعریف سزاوار ہے، اور تجھی سے شکایت چاہئے

وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

اور تجھ سے فریاد چاہیے اور تجھ ہی سے مدد۔ اور نہ کوئی بچاؤ ہے، اور نہ کوئی قوت عبادت کی

بِاللَّهِ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

سوائے اللہ کے۔ یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے

وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي

اور تیری عفو کی پناہ میں تیرے عذاب سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں خود تجھ سے میں تیری تعریف

شَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا

نہیں کر سکتا ہوں تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری

نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزَلَ أَوْ نُزِلَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ

پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ڈگ جائیں، یا ڈگائیں، یا گمراہ کریں یا ظلم کریں یا کوئی ہم پر

فائدہ ۱۷۴ دُعاء مذکورہ میں اللہ کی رضا کی پناہ کا سوال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ درخواست

کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس لیے کہ ہم کہیں پھسل جائیں یا کسی کو

پھسلا دیں کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے اے اللہ تیری ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا

ہوں۔ تو میری دنیا و آخرت کے کام درست فرما۔ اس دُعاء میں كَوَاقِبِيَّةِ الْوَالِيَّةِ کا کلمہ شفقت

عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلْ أَوْ يُجْهَلْ عَلَيْنَا أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَضَلَّ أَعُوذُ بِنُورِ

ظلم کرے، یا جہالت کریں یا کوئی جہالت کرے یا گمراہ ہوں یا کوئی گمراہ کرے۔ تیری ذات کے نور

وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ

کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھی ہیں

وَصَدِّحْ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ

اور اس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں۔ پناہ اس امر سے کہ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارے

وَتُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا

اور تو ناخوشی نازل کرے اور حق ہے کہ تجھے منایا جائے کہ تو راضی ہو جائے اور نہ کوئی بچاؤ ہے

قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ وَقِيَّةً كَوَاقِيَّةَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ إِنِّي

اور نہ کوئی طاقت مگر تیری مدد سے یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں بچہ کی سی نگہبانی۔ یا اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَعْيَيْنِ السَّيْلِ وَالْبَعِيرِ الصَّؤُولِ ۝

تیری پناہ میں آتا ہوں دو اندھی برائیوں یعنی سیلاب اور حملہ آور اونٹ سے۔

اور پیار کے عجیب معانی کو اپنے اندر سموائے ہوئے ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ!

ایک شفیق ماں بچے کو ایک ایک لمحہ کے لیے دور نہیں ہونے دیتی ہر وقت اس کی نگرانی و نگہبانی

میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ حق تعالیٰ سے ایسی ہی نگہبانی کی درخواست کر رہا ہے۔

اے اللہ آپ تو ستر ماؤں سے زیادہ شفیق ہے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔



چھٹی منزل
بروز جمعرات



خُطْبَةُ مَنَاجَاتِ مَقْبُولٍ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمُنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُولِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدَّابُّورُ وَالْقَبُولُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَانشَعَبَتِ الْفُرُوعُ ۝ وَمِنَ الْاَصْوَالِ ۝ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُولُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

چھٹی منزل بروز جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱۷۵ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ

یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں بہ طفیل محمد ﷺ کے جو تیرے نبی ہیں اور بہ طفیل ابراہیم کے

خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ وَعِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَ

جو تیرے خلیل ہیں اور بہ طفیل موسیٰ کے جو تیرے کلیم ہیں اور بہ طفیل عیسیٰ کے جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں

بِكَلَامِ مُوسَى وَانجِيلِ عِيسَى وَزَبُورِ دَاوُدَ وَفُرْقَانَ

اور بہ طفیل کلام موسیٰ کے اور انجیل حضرت عیسیٰ کے اور زبور حضرت داؤد کے اور فرقان

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهُ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہ طفیل ہر وحی کے جسے تو نے بھیجا ہو

فَاِنَّ ۱۷۵ مذکورہ دعا کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے وسیلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام

تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کا واسطہ دے کر یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! مجھے

ایسا قرآن کریم نصیب فرما جو میرے خون، میرے کان، میری آنکھوں میں رچ بس جائے اور

أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ أَوْ سَأَلٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ فَقِيرٍ

یا ہر حکم تکوینی کے جسے تو نے جاری کیا ہو اور بہ طفیل ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور بہ طفیل ہر محتاج

أَغْنَيْتَهُ أَوْ غَنِيٍّ أَفْقَرْتَهُ أَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ

کے جس کو تو نے غنی کیا ہو اور بہ طفیل ہر غنی کے جسے تو نے محتاج کر دیا ہو اور ہر گمراہ کے جسے تو نے ہدایت دی

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بہ طفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا

فَأَسْتَقِرَّتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ

اور وہ ٹھہر گئی، اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قرار پکڑ گئے اور پہاڑوں پر رکھا تو

فَرَسَتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ

وہ جم گئے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے بہ طفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنْزَلِ فِي

اور یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے بہ طفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے تیری

میرے جسم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے گویا دیکھوں تو قرآن ہی کی آنکھ سے۔ سنوں تو قرآن

ہی کے کان سے۔ سوچوں تو قرآن ہی کے بارے میں یعنی ہر سطح ہر طرح سے قرآن ہی میری

زندگی پر چھا جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایسا ابدی معجزہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت

اور طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت کے ساتھ ان کے معانی پر غور کرے تو یہ بات نکھر کر

كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى

کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہے اور بہ طفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے

النَّهَارِ فَاسْتَنَسَرَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَ

دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی۔ اور بہ طفیل تیری عظمت اور

كِبْرِيَاءِكَ وَبُنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ

تیری بڑائی کے اور بہ طفیل تیرے نور ذات کے، کہ تو نصیب کرے مجھے قرآن

الْعَظِيمِ وَتُخَلِّطُهُ بِدَحْمِي وَدَمِي وَسَبْعِي وَبَصْرِي

عظیم، اور اسے میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری شنوائی میں، میری بینائی میں پیوست کر دے،

وَتَسْتَعْبِلُ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ

اور اس پر میرے جسم کو عام بنا دے اپنی قدرت اور قوت سے بے شک نہ کوئی بچاؤ معصیت سے ہے،

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ لَا تُوَمِّئًا مَكْرًا وَلَا تُنْسِنَا

اور نہ کوئی قوت ہے مگر تیرے ذریعہ سے، یا اللہ ہمیں اپنی خفیہ گرفت سے بے فکر نہ کر، اور نہ ہمیں اپنی

سامنے آئے گی کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے اس کلام میں کہیں دباؤ اور کہیں ضعف نظر نہیں

آئے گا بارہویں پارہ میں ارشاد الہی ہے زمین و آسمان کو اس انداز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے

زمین پانی نکل جا اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس طرح حکم دے

سکتی ہے۔ یہ قوت و طاقت والا کلام صرف اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ کسی بشر کا نہیں۔

ذَكَرَكَ وَلَا تَهْتِكُ عَنَّا سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ

یاد سے غافل ہونے دے اور ہماری پردہ داری کر اور نہ کر ہمیں

الْغَافِلِينَ ﴿۱۷۶﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ

غافلوں میں سے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں عافیت عاجل کی،

وَدَفْعَ بَلَائِكَ وَخُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ يَا

اور دفع بلا کی اور دنیا سے تیری رحمت کی جانب منتقل ہونے کی۔ اے

مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ أَحَدٌ

وہ کہ کافی ہے وہ سب کے عوض اور کوئی بھی کافی نہیں ہے اس کے عوض۔

يَا أَحَدًا مِنْ لَّا أَحَدًا لَهُ يَا سَنَدًا مِنْ لَّا

اے والی اس شخص کے جس کا کوئی والی نہیں اے سہارے اس شخص کے جس کا

سَنَدًا لَهُ إِنْ قَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ نَجِّنِي مِمَّا

کوئی سہارا نہیں امیدیں منقطع ہو چکی ہیں مگر تجھ سے۔ مجھے نجات دے اس حال سے

فَإِنَّهُ ۱۷۶ دُعَاءُ مَذْكُورَةٌ فِي بَارِغَاةِ خَدَاوَنْدِي فِي إِنْ الْفَاطِظِ كَمَا سَأَلْتُكَ التَّجَاةَ كَمَا كُنْتُ فِي أَيْ

میرے خدا مجھے جلدی سے دکھ اور تکلیف سے باہر نکال مجھے چین اور سکھ نصیب فرما اور میری ساری

بلائیں دفع فرما۔ اور پھر یہ الفاظ قابل رشک ہیں۔ بے کسوں اور بے سہاروں کے یکتا سہارے کہ میری

ساری دنیا سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں ایک تجھ سے امید باقی ہے درخواست کرتا ہوں کہ میں جس بلا

اَنَا فِيهِ وَأَعِيْنِي عَلَى مَا آتَانَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بِئِي

جس میں کہ میں ہوں اور جو بلا کہ نازل ہو چکی ہے اس کے مقابلہ میں میری مدد کر

بِحَاةٍ وَجْهَكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اٰمِيْنَ ۝

صدقہ اپنی ذات پاک کا اور محمد ﷺ کے اس حق کے طفیل میں جو تجھ پر ہے۔ آمین

اَللّٰهُمَّ اَحْرُسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْفِنِيْ

یا اللہ میری نگہبانی کر اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں اور مجھے اپنی اس قوت کی

بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ وَاَرْحَمْنِيْ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ

آڑ میں لے لے جس کے پاس کوئی نہیں پھٹک سکتا اور مجھ پر رحم کر اپنی قدرت سے جو مجھ پر ہے

فَلَا اَهْلِكَ وَاَنْتَ رَجَائِيْ فَكَمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ اَنْعَمْتَ

تاکہ میں ہلاک نہ ہوں۔ اور تو ہی میری امیدگاہ ہے، کتنی ہی نعمتیں تو نے مجھے

بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِيْ وَكَمْ مِّنْ بَلِيَّةٍ

دیں اور میرا ان کے لئے شکر کم ہی رہا اور کتنی مصیبتیں ہیں

میں پھنس چکا ہوں اس میں میری مدد فرما صدقہ آپ کی ذات پاک کا اور نبی کریم محمد ﷺ

کے وسیلہ کے اس حق کے طفیل جو آپ نے اپنے اوپر وعدہ کے مطابق لازم قرار دیا ہے۔

فائدہ ۱۷۷ مذکورہ دعا کے ترجمہ پر غور کیجئے جس میں اللہ جل شانہ سے یہ درخواست کی گئی

ہے اے اللہ! میری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں اور اپنی اس قوت سے جس

إِنِّ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ

جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا اور میرا صبر ان پر کم ہی رہا۔ پس اے وہ کہ اس کی نعمت

نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ

کے وقت میرا شکر کم رہا پھر بھی مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ

عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيَا مَنْ سَرَّانِي

اس کے ابتلاء کے وقت میرا صبر کم رہا پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اور اے وہ کہ

عَلَى الْخَطَا يَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي ^{۱۷۸} يَا ذَا الْمَعْرُوفِ

مجھے گناہوں پر دیکھا پھر بھی مجھے (سوا) نہ کیا۔ اے ایسے احسان والے

الَّذِي لَا يَنْقُضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعْمَاءِ الَّتِي

جس کا احسان کبھی ختم نہ ہوا، اور اے ایسی نعمتوں والے کہ جس کی

لَا تُحْطَى أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا

نعمتیں کبھی شمار نہ ہو سکیں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

کے مقابلہ میں کوئی نہیں آسکتا۔ اے اللہ میں قصور وار ہوں تیری نعمت کا حق شکر بھی ادا نہیں کر

سکتا۔ نہ ہی غم میں میں نے صبر کیا۔ درد مندانہ التجا ہے کہ کوتاہیوں کو نظر انداز فرما اور عافیت

نصیب فرما۔ مسنون دعاؤں میں یہ ایک عجیب دعا ہے جس میں بشری کمزوری کا لحاظ رکھتے

ہوئے یہ بھی تعلیم دی گئی کہ مجھے جلدی سے عافیت، راحت اور سکون عطا فرما۔

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأُنِي نَحْوِ الْأَعْدَاءِ

اور حضرت محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل کر، میں تیرے زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور

وَالْجَبَابِرَةِ ۝۱۷۹ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَىٰ دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَىٰ

زور آوروں کے مقابلہ میں۔ یا اللہ میرے دین پر دنیا کو مددگار بنا دے اور میری

آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ وَاحْفَظْنِي فِيمَا عِبْتُ عَنْهُ وَلَا

آخرت پر تقویٰ کو مددگار کر دے اور تو ہی محافظ رہ میری ان چیزوں کا جو آنکھوں سے دور ہیں اور ان

تَكْلِنِي إِلَىٰ نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتَهُ يَا مَنْ لَا

چیزوں میں جو میرے پیش نظر ہیں تو مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر اے وہ کہ نہ اسے

تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ السُّغْفَرَةُ هَبْ لِي مَا

گناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کے ہاں مغفرت کوئی کمی کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز دے جو

لَا يَنْقُصُكَ وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ

تیرے ہاں کمی نہیں کرتی، معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ بے شک تو ہی

فائدہ ۱۷۹ اس دُعاء مذکورہ میں بارگاہِ خداوندی میں اس کی درخواست کی گئی ہے کہ دنیا کو

دین کی ترقی اور تقویٰ کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اور پھر یہ سبق بھی سکھلایا گیا ہے کہ اگر

ساری دنیا گناہوں میں غرق ہو جائے تو تیرہ ذرہ بھر بھی حرج نہیں ہوگا اور اگر تو سب کی

مغفرت کر دے تو تیرے خزانے میں رائی برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔

الْوَهَّابُ أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَ

بڑا دینے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے فوری کشائش کی اور صبر جمیل کی اور

رِزْقًا وَاسِعًا وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَأَسْأَلُكَ

رزق وسیع کی، اور جملہ بلاؤں سے امن کی اور میں مانگتا

تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ

ہوں تجھ سے پورا چین اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین کا دوام اور مانگتا ہوں

الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ وَلَا

تجھ سے اس چین پر توفیق شکر، اور مانگتا ہوں تجھ سے مخلوق کی طرف سے بے احتیاجی اور نہ کوئی

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝۱۸۰ اللَّهُمَّ

بچاؤں ہے گناہوں سے اور نہ کوئی قوت ہے طاعت کی سوائے اللہ بزرگ و برتر کے۔ یا اللہ

اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ

میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے

فائدہ ۱۸۰ دُعاء مذکورہ میں باطن اور ظاہر کی درستگی کا سوال اور پھر باطن کو ظاہر سے زیادہ بہتر

بنانے کی دُعاء کی تلقین کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی مال اولاد و اہل و عیال کے بارے میں یہ

درخواست کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان سب کو گمراہیوں سے بچانے یہ خود گمراہ ہوں اور نہ یہ

دوسروں کو گمراہ کریں۔ اپنی دعاؤں میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل رکھیں۔

عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ

ظاہر کو صالح بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان اچھی چیزوں کی

مَا تُوْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ غَيْرُ

جو تو لوگوں کو دیتا ہے مال سے ہو یا بیوی سے ہو یا بچے سے ہو۔ میں نہ

ضَالٍّ وَلَا مُضِلٍّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ

گمراہ ہوں نہ گمراہ کر نیوالا ہوں۔ یا اللہ ہمیں منتخب بندوں میں سے کر لے

الْمُتَّخِذِينَ الْغُرَّةَ الْمُحَجَّلِينَ الْوَفْدَ الْمُتَقَبِّلِينَ

جن کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے اور جو مقبول مہمان ہوں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تَوْمِنُ

یا اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیرے

بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ ○

ملنے کا یقین رکھے اور تیری مشیت پر راضی رہے اور تیرے عطیہ پر قناعت رکھے۔

فائدہ ۱۸۱ اس دُعاء میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ! آخرت میں ہمارے چہرے اور

ہمارے اعضاء کو روشن اور چمکدار بنا۔ اور ایسا نفس عطا کر جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیری

ملاقات کا یقین ہو اور تیرے دیے ہوئے رزق پر قناعت رکھے۔ اور یہ بھی درخواست کی گئی

ہے کہ یا اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہوں تاکہ کہ تسلیم و رضا پر عمل ہو سکے۔

۱۸۲ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ

یا اللہ حمد تیرے ہی لئے ہے، ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے اور تیرے

الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

لئے حمد ہے ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد

لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

کہ اس کی انتہا تیری مشیت کے بغیر نہیں۔ اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ

لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ

اس کے قائل کا مقصود تمام تر تیری ہی خوشنودی ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد

كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ اللَّهُمَّ اقْبَلْ

جو ہر پلک جھپکانے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ یا اللہ متوجہ کر دے

بِقَلْبِي إِلَى دِينِكَ وَاحْفَظْ مِنْ وِرَائِنَا بِرَحْمَتِكَ

میرے دل کو اپنے دین کی طرف اور ہماری حفاظت ادھر ادھر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ

فَاتَن ۱۸۲ اس دُعا میں اللہ جل شانہ کی لامتناہی حمد کی گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ عجیب

درخواست کی گئی ہے۔ اے اللہ! میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کر۔ ہر طرف سے اپنی رحمت

سے ہماری حفاظت فرما۔ ثابت قدمی عطا کر۔ ہدایت پر قائم رکھ اور گمراہی سے بچا۔ اور یہ

کلمات بھی آئے ہیں اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي أَنْ أَزِلَّ وَاهْدِنِي أَنْ أَضِلَّ ۝

یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کہیں ڈگ نہ جاؤں اور مجھے ہدایت پر رکھ کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔

اللَّهُمَّ كَمَا حُلَّتْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي فَحُلْ بَيْنِي ۱۸۳

یا اللہ تو جس طرح حائل ہے مجھ میں اور میرے دل میں پس تو حائل رہ مجھ میں

وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَبْدِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ

اور شیطان اور اس کے کام میں یا اللہ ہمیں نصیب کر

فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا

اپنا فضل اور ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ رکھ اور جو رزق تو نے ہمیں دیا

رِزْقَتَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا فِي أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ

اس میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو غنی کر دے اور جو کچھ تیرے پاس ہے

رَغْبَتَنَا فِي مَا عِنْدَكَ ۱۸۴ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ

اس کی طرف ہمیں رغبت دیدے۔ یا اللہ مجھے ان میں کر دے جنہوں

فائدہ ۱۸۳ اس دُعاء مذکورہ میں اللہ جل شانہ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ! آپ

میرے اور شیطان کے درمیان رکاوٹ بن جائیں تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں اور ہمیشہ

ہمیشہ تیری اطاعت اور بندگی میں لگا رہوں نیز اس دُعا میں یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ اے

اللہ! اپنے فضل کے ساتھ ہمیں رزق سے محروم نہ رکھ۔ برکت والا رزق عطا فرما اور ہمارے

تَوَكَّلْ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَاسْتَهْذَاكَ

نے تجھ پر توکل کیا۔ پس تو ان کے لئے کافی ہو گیا اور انہوں نے تجھ سے ہدایت چاہی

فَهَدَيْتَهُ وَاسْتَنْصَرَكَ فَانصَرْتَهُ ۝۱۸۵ اللَّهُمَّ

سو تو نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے تجھ سے مدد چاہی سو تو نے انہیں مدد دی۔ یا اللہ

اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي خَشِيَتَكَ وَذِكْرَكَ

میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے۔

وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهَوَايَ فَيَسًا مَحْبُوبًا وَتَرْضَى اللَّهُمَّ

اور میرے شوق اور ہمت کی چیز کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا ہو اور پسند کرتا ہو یا اللہ

وَمَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رِخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَسَّكِنِي

تو میرا امتحان نرمی یا سختی غرض جس چیز سے بھی کرے تو مجھے طریق

بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ۝۱۸۶ اللَّهُمَّ ارِنِي

حق اور شریعت اسلام پر جمائے رکھ۔ یا اللہ میں

دلوں کو ایسا غنی کر دے کہ جس میں ہماری نفسانی خواہشات مٹ جائیں اور ہم شوق اور رغبت

کے ساتھ تیرے اجر و ثواب کی طرف دوڑ لگادیں۔ **فائدہ ۱۸۵** اس دُعاء میں عجیب

درخواست ہے۔ یا اللہ! مجھے ایسی لگن عطا فرما کہ وسوسے بھی آئیں۔ تب بھی تیری ہی یاد اور

تیری خشیت کی طرف جانے والی ہو اور ساتھ یہ بھی درخواست کی گئی ہے۔ اے اللہ! میرے

أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ

تجھ سے درخواست کرتا ہوں جملہ اشیاء میں نعمت کے پورا ہونے کی اور ان پر تیرے شکر

لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَى الْخَيْرَةَ

کی توفیق پانے کی یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور بعد خوش ہو جانے کے میرے

فِي جَمِيعِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْخَيْرَةُ وَلِجَمِيعِ

لئے انتخاب کر دے تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب بھی

مَيْسُورًا الْأُمُورَ كُلِّهَا لَا بِمَعْسُورٍ هَا يَا كَرِيمٌ

سب ہی آسان کاموں کا، نہ کہ دشوار کاموں کا اے کریم!

اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ

یا اللہ صبح کے نکالنے والے اور رات کو آرام کا وقت بنانے والے اور سورج

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا قَوِّنِي عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ

اور چاند کے وقت کا مقیاس بنانے والے مجھے اپنی راہ میں جہاد کی قوت دے۔

امتحان میں مجھے حق کے راستے اور شریعت اسلام پر ثابت قدم فرما۔ **فائدہ ۱۸۷** اس دُعاء میں

راہ جہاد میں قوت کی درخواست کی گئی ہے جو ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو ہے اور یہی تمنا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فرمائی۔ اسی کی ہم بھی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ تمام

مسلمانوں کو قوت ایمانی نصیب فرما، اور راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کی دولت نصیب فرما۔

۱۸۸ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاءِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى خَلْقِكَ

یا اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے تیرے ابتلاء اور تیری مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ میں

وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاءِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى أَهْلِ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے تیرے ابتلاء میں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ تیرے

بُيُوتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاءِكَ وَصَنِيعِكَ

برتاؤ میں، اور تیرے ہی لئے حمد ہے تیرے ابتلاء میں اور خاص ہماری جانوں

إِلَى أَنْفُسِنَا خَاصَّةً وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا

کے ساتھ تیرے برتاؤ میں۔ اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی،

وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا

اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی۔ اور تیرے ہی لئے حمد ہے کہ تو نے

سَتَرْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ

ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے ہی لئے حمد ہے قرآن پر، اور تیرے ہی لئے حمد ہے

فائدہ ۱۸۸ اس دُعا میں ایک عجیب سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو ہر حال اور ہر صورت میں خواہ

کتنے مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہو رضا بالقضاء کا مصداق بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء

کرنی چاہیے یعنی حق جل شانہ بندے میں جو بھی تصرف فرمائیں اس میں کوئی شکوہ و شکایت کا

کلمہ زبان پر نہیں آنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ہر فیصلہ کے سامنے سر

بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ الْحَمْدُ

اہل پر اور مال پر اور تیرے ہی لئے حمد ہے درگزر کرنے پر، اور تیرے ہی لئے حمد

حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ يَا أَهْلَ

ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے ہی لئے حمد ہے جب کہ تو خوش ہو جائے، اے وہ کہ جس

التَّقْوَى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ۱۸۹ اللَّهُمَّ وَفَّقْنِي لِمَا تَحِبُّ

ذات سے ڈرنا چاہیے، اور اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی

وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالذِّيَّةِ

توفیق دے جسے تو اچھا سمجھے، خواہ وہ قول ہو یا عمل یا فعل یا نیت

وَالْهُدَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۹۰ اللَّهُمَّ إِنِّي

یا طریق بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلٍ مَّا كَرِهَ عَيْنَا لَا تَرِيَانِي وَقَلْبُهُ

تیری پناہ میں آتا ہوں مگر دوست سے جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا دل

تسلیم خم کرنا ہی عافیت خیر اور بھلائی ہے۔ **فائدہ ۱۸۹** مذکورہ دُعاء میرا اور میرے مشائخ کے

وظائف کا حصہ ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ! میں بہت عاجز، بے بس کمزور

ہوں مجھے تو اس چیز کی توفیق عطا فرما دے جس کو تو اچھا سمجھے، میری نیت، میری زبان اور میرے

تمام کام درست فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ **فائدہ ۱۹۰** اس دُعاء میں دنیا میں رہنے

يَدْعَانِي اِنْ رَّأَيْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَّأَيْ سَيِّئَةً اَذَاعَهَا

مجھے چرا لیتا ہو، اگر وہ بھلائی دیکھے اسے دبا دے اور اگر برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالتَّبَاوُّسِ

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اِبْلِيسَ وَجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے، یا اللہ

اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ

میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنہ سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں

بِكَ مِنْ اَنْ تُصَدِّعَنِيْ وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آتا ہوں اس سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِيْنِيْ

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرے

والے انسانوں کے شر سے بچاؤ کا سبق دے کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا ایسے مکار دوستوں سے

بھری پڑی ہے جو نام کے تو دوست ہیں لیکن دل سے بدخواہ۔ جو خوبی کو چھپانے والے ہیں اور

عیب کو خوب جی بھر کر پھیلانے والے ہیں۔ ایسوں سے پناہ مانگنے کا سبق دے کر ہمیں دنیا کی

تکالیف سے بچاؤ کا درس دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ عجیب دُعا کہ اے اللہ! میں عورتوں کے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ يُؤْذِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ

اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر

مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يَلْهِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ

ایسے منصوبہ سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے فقر سے جو

يُنْسِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غِنَى يُطْغِيَنِي

مجھے ہول میں ڈال دے۔ اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْهَمِّ وَأَعُوذُ بِكَ

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر کی موت سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں

مِنْ مَوْتِ الْغَمِّ

غم کی موت سے۔



فتنہ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ عورتوں کا فتنہ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے شروع ہوا آج کے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے جس کی نشاندہی آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ کے ساتھ فرمائی۔ ”میرے بعد سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مردوں کے لیے عورتیں ہیں۔“ اے اللہ! ہم سب کی اس فتنہ اور تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔



ساتویں منزل
بروز جمعہ



خُطْبَةُ مَنَاجَاتٍ مَقْبُولٍ

ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے
خطبہ ذیل پڑھیں اور ہفتہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کیا کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مُحَمَّدُكَ يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ عَلٰی مَا عَلَّمْتَنَا

ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے ان سب سے بہتر جن سے امید کی جاسکتی ہے اور ان سب سے

مِنَ الْمُنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ ۝ مِنْ قُرْبَتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ

کریم تر جن سے کچھ طلب کیا جاسکتا ہے کہ تو نے ہمیں مناجات مقبول سکھائی جو اللہ کے ہاں موجب قربت

الرَّسُولِ ۝ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُورُ وَالْقَبُولُ ۝

ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سکھائیں۔ اے اللہ آپ پر رحمت کامل نازل فرما جب تک کہ مغرب اور شرق

وَانشَعَبَتِ الْفُرُوعُ مِنْ الْاَصْوَالِ ۝ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا

کی ہوائیں چلتی رہیں اور جڑوں سے شاخیں پھوٹی رہیں اس کے بعد ہم تجھ سے وہ طلب کرتے ہیں جو

سَنَقُولُ ۝ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَصْنُكَ الْقَبُولُ ۝

ابھی (آگے) عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔

ساتویں سنزل بروز جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱۹۱ **یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ یَا کَبِیْرُ یَا سَمِیْعُ**

اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، یا اللہ اے بڑائی والے اے سننے والے

یَا بَصِیْرُ یَا مَنْ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَلَا وَزِیْرَ لَهٗ وَ

اے دیکھنے والے اے وہ کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ مشیر ہے اور

یَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ السُّیْرِ وَیَا عِصْمَةَ

اے آفتاب و ماہتاب روشن کے پیدا کرنیوالے، اور اے مصیبت زدہ

الْبَآئِسِ الْخَآئِفِ السُّتَجِیْرِ وَیَا رَازِقَ

ترساں و پناہ جو کے پناہ اور اے ننھے

فَاتِدۡ ۱۹۱ دُعاء مذکورہ میں ننھے بچے کو روزی پہنچانے والے۔ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے۔

مصیبت زدہ محتاج اور بے قرار آفت زدہ کی درخواستوں کو سننے والے کا خصوصیت سے ذکر

کر کے اپنی بے بسی اور خدا کی کبریائی اور سمیع و بصیر کا واسطہ دے کر دُعا مانگی جا رہی ہے جس کی

قبولیت میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ کلمات سوائے رسول اللہ ﷺ کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔

الطِّفْلِ الصَّغِيرِ وَيَا جَابِدَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ أَدْعُوكَ

بچہ کی روزی پہنچانے والے اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے میں تجھ

دُعَاءَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ كَدُّعَاءِ الْمُضْطَّرِّ

سے درخواست کرتا ہوں مصیبت زدہ محتاج کی سی درخواست، بے قرار

الضَّرِيرِ أَسْأَلُكَ بِعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ

آفت زدہ کی سی درخواست تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے بندہ ہائے عزت کے واسطے

وَبِفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِالْأَسْمَاءِ

اور تیری کتاب کی کلید ہائے رحمت کے واسطے سے اور ان آٹھ ناموں

الْثَّانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَرْنِ الشَّيْسِ أَنْ تَجْعَلَ

کے واسطے سے جو رخ آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں، یہ کہ بنا دے

الْقُرْآنَ رَبِّعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ حُزْنِي رَبَّنَا ۱۹۲

قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش۔ اے ہمارے رب!

فائدہ ۱۹۲ اس دُعا کے طالب کے لیے دنیا میں (کذا وکذا یعنی فلاں فلاں شے عطا کر) ان

الفاظ میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ ان کے پڑھتے وقت جائز پسندیدہ خواہش کا تصور کرے۔ یعنی

صحت و عافیت اہل و عیال کی بھلائی، حلال اور وسیع رزق کی طلب اور سب سے بڑھ کر حسن

خاتمہ کا تصور کر کے دُعا طلب کریں یا کوئی ضرورت کی چیز وغیرہ۔ اس طویل دعا میں اللہ کی

اتِّنَا فِي الدُّنْيَا كَذَا وَكَذَا يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَجِيدٍ

ہمیں دنیا میں عطا کر فلاں فلاں چیز۔ اے غمگسار ہر اکیلے کے

وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيدٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَ

اور اے رفیق ہر تنہا کے اور اے ایسے قریب جو دور نہیں اور

يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ يَا حَيُّ

اے حاضر جو غائب نہیں، اور اے ایسے غالب جو مغلوب نہیں۔ اے زندہ رہنے والے

يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نُورَ

اے قائم رہنے والے، اے بزرگی اور عظمت والے اور اے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا شَرِيحَ السَّمَوَاتِ

آسمانوں اور زمین کے نور، اور اے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيْعَ

زمین کی زینت اے آسمان اور زمین کے ستون اے آسمان

عظمت و جلال کا واسطہ دے کر یہ درخواست اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ فریاد یوں کے فریاد رس اے غم و مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی فریاد سننے والے اے بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اے ارحم الراحمین تیرے ہی سامنے میں نے اپنی تمام حاجات پیش کر دی ہیں حسب وعدہ تو انہیں قبول فرما۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَاقِيَامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور زمین کے پیدا کرنے والے اور اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِحِينَ

اور اے بزرگی اور عظمت والے اے فریادیوں کے فریادرس

وَمُنْتَهَى الْعَايِذِينَ وَالْمُفْرِجُ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ

اور پناہ مانگنے والوں کی آخری دوڑ، اور بے چینوں کے کشائش دینے والے

وَالْمُرَوِّحُ عَنِ النُّعُومِينَ وَجُذِبَ دُعَاءِ الْمُضْطَّرِّينَ

اور غمزدوں کو راحت دینے والے، اور بے قراروں کی دعا کے قبول کرنے والے

وَيَا كَاشِفَ الْمَكْرُوبِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ

اور اے صاحب کرب کو شفا دینے والے اے اللہ العالمین اور اے ارحم

الرَّاحِمِينَ مَنزُولُ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ ۱۹۳ اللَّهُمَّ إِنَّكَ

الرحمیں تیرے ہی سامنے ہر حاجت پیش ہے۔ یا اللہ تو

فائدہ ۱۹۳ دُعاء مذکورہ کا ایک ایک کلمہ قربان ہونے کے قابل ہے جس میں بخشش کی طلب،

رحم کا سوال، عافیت، رزق کی کشادگی، گناہوں کی پردہ پوشی اور آخر میں یہ کلمہ جس کا مفہوم یہ ہے

کہ اے اللہ! ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن کی بناء پر آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ اور ساتھ ہی

یہ دعا کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں میرا پردہ اور شرم رکھنا۔

خَلَّاقٌ عَظِيمٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ غَفُورٌ

خالق اعظم ہے، تو سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے، تو غفور ہے

رَّحِيمٌ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ

تو رحیم ہے، تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے یا اللہ تو

الْبَرِّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي

محسن ہے صاحب جو دے صاحب کرم ہے، تو مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم کر اور مجھے چین دے

وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا

اور مجھے روزی دے، میری پردہ پوشی کر، میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے بلندی دے، مجھے ہدایت دے اور

تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مجھے گمراہ نہ کر اور مجھے جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ اے ارحم الراحمین

إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَفِي نَفْسِي لَكَ فَذَلِّلْنِي وَفِي

اے میرے رب مجھے اپنا بنا لے اور میرے دل میں فرمانبرداری ڈال دے، اور

اور ساتھ ہی یہ درخواست کی گئی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما گمراہی سے بچا اور محض اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما، اور یہ بشری تقاضا کے مطابق دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھے معزز فرما۔ بے مثال دعا ہے۔

أَعْيُنِ النَّاسِ فَعِظُّنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ

لوگوں کی نظر میں مجھے معزز کر دے۔ اور بُرے اخلاق سے

فَجَبِّبْنِي ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا

مجھے بچا دے۔ یا اللہ تو نے ہماری ذات سے ان اعمال کو طلب کیا ہے

مَا لَا نَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا

جن پر ہم کوئی اختیار بغیر تیری توفیق کے نہیں رکھتے تو تو ہمیں ان میں سے اس عمل کی توفیق دے دے،

يُرْضِيكَ عَنَّا ۱۹۲ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا

جو تجھے ہم سے رضا مند کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والا

دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَأَسْأَلُكَ

ایمان اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خشوع والادل اور تجھ سے طلب

يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دِينًا قَبِيحًا وَأَسْأَلُكَ

کرتا ہوں سچا یقین اور تجھ سے طلب کرتا ہوں دین مستقیم، اور تجھ سے طلب کرتا

فائدہ ۱۹۳ (الف) اس دُعاء میں ایمان کی سلامتی خشوع والادل، سچا یقین اور ہر مصیبت اور

بلا سے امن بلکہ ایسا امن جس میں دوام ہو طلب کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ الفاظ کہ اے اللہ

مجھے مخلوق کی احتیاج سے بچالے۔ یہ دعا اسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ

امن اور چین وقتی نہیں دائمی نصیب فرما اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے قبول فرمالے۔

الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ

ہوں ہر بلا سے امن، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں

الْعَافِيَةَ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ

امن کا دوام اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن پر توفیق شکر،

وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ ۝ ۱۹۴ ۞ اللَّهُمَّ

اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خلق کی طرف سے بے نیازی یا اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَتُّ إِلَيْكَ مِنْهُ

تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو

ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ

اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے

مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَوْفِ لَكَ بِهِ

اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو

فائدہ ۱۹۴ (ب) اس دُعا میں کس قدر حقیقت اور صحیح معنی میں انسانی کمزوری کا ذکر کیا گیا

ہے جس میں یہ ذکر ہے اے اللہ! میں بار بار توبہ کرتا ہوں اور پھر بار بار توڑتا ہوں۔ اور انہی

گناہوں میں پھنس جاتا ہوں اور اس دُعا میں ایک عجیب دُعا مسنون جو سو فیصد حقائق پر

مشتمل ہے ذکر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقْوَيْتُ بِهَا عَلَيَّ

اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارہ میں جن سے میں نے قوت حاصل کی اور

مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَدْتُ بِهِ

اسے تیری نافرمانی میں لگا یا اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارہ میں کہ میں نے اس کو خالصتاً

وَجُهِكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ

تیرے لئے کرنا چاہا پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف تیرے لئے نہ تھیں۔ یا اللہ

لَا تَخْزِنِي فَإِنَّكَ بِنِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي

مجھے رسوا نہ کرنا بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے اور مجھ پر عذاب نہ کرنا،

فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ

بے شک تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ ساتوں آسمانوں کے مالک

السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي

اور عرش عظیم کے مالک، یا اللہ تو میرے لئے

ان نعمتوں کو آپ کی نافرمانی میں صرف کرتا رہوں تو تو مجھے معاف فرما۔ اور ساتھ ہی یہ بھی

حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں نیکیاں ارادتا صرف تیری رضا کیلئے کرنے کی کوشش

کرتا ہوں مگر بعد میں دوسری اشیاء اس میں شامل ہو جاتی ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔

كُلُّ مُهِمٍّ مِّنْ حَيْثُ بَشِئْتَ وَمِنْ أَيْنَ

ہر مہم میں کافی ہو جا جس طرح تو چاہے اور جس جگہ سے

بَشِئْتَ ۱۹۵ ﴿﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَدِينِي حَسْبِيَ اللَّهُ

تو چاہے۔ کافی ہے مجھے اللہ میرے دین کے لئے۔ کافی ہے مجھے اللہ میری

لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَأْهَبَنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَسْئَلَنِي

دنیا کیلئے کافی ہے مجھے اللہ میری فکروں کیلئے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے مقابلہ کیلئے

بَعْنِي عَلَى حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَسْأَلَنِي حَسْبِيَ اللَّهُ

جو مجھ پر زیادتی کرے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کیلئے جو مجھ سے حسد کرتا ہو، کافی ہے مجھے اللہ

لِيَسْأَلَنِي بِسُوءِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

اس شخص کیلئے جو مجھے برائی کے ساتھ دھوکا دیتا ہے، کافی ہے مجھے اللہ موت کے وقت،

حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِيَ

کافی ہے مجھے اللہ سوال قبر کے وقت، کافی ہے

فائدہ ۱۹۵ اس دُعاء میں ساتوں آسمان اور عرشِ عظیم کا واسطہ دے کر دنیا و آخرت کی تمام مہمات کا

ذکر کر کے یہ دُعا کی گئی ہے کہ اے اللہ! تو میرے لیے ان تمام امور میں کافی ہو جا، میرے دین دنیا

میں میری موت کے وقت قبر میں، سوال کے وقت میزانِ عدل کے پاس پل صراط پر یعنی دنیا و آخرت

کے ان تمام امور پر میرا محافظ بن جا۔ قابلِ رشک ہے یہ دُعا اور یہ میری انتہائی پسندیدہ دُعا ہے۔

اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

مجھے اللہ میزان حشر کے پاس، کافی ہے مجھے اللہ صراط محشر کے پاس،

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کافی ہے مجھے وہ اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوا اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۱۹۶ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں

ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ وَنُزُلَ الْمُقَرَّبِينَ وَمُرَافَقَةَ

اجر شکر گزاروں کا سا اور مہمانداری مقربین کی سی اور رفاقت

النَّبِيِّينَ وَيَقِينِ الصِّدِّيقِينَ وَذِلَّةَ الْمُتَّقِينَ

انبیاء علیہم السلام کی اور اعتقاد صدیقوں کا سا، اور خاکساری اہل تقویٰ کی سی

وَإِحْبَابَ الْمُؤَقِنِينَ حَتَّى تُوَفَّانِي عَلَى ذَلِكَ يَا أَرْحَمَ

اور خشوع اہل یقین کا سا، یہاں تک تو اسی حال پر مجھے اٹھالے۔ اے سب رحم

فائدہ ۱۹۶ دُعاء مذکورہ میں اولیاء اور صدیقین جیسا اعتقاد اہل تقویٰ کی سی عاجزی، شکر گزار

بندوں کا سا عمل طلب کیا گیا ہے اور اس بات کی التجاء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل

و کرم سے انبیاء کرام کی سی رفاقت نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی یہ درخواست کی گئی ہے کہ اے

اللہ میرا خاتمہ اسی ایمان و یقین پر نصیب فرما۔ حسن خاتمہ کے حصول کی بہترین دعا ہے۔

الرَّحِيمِ ۱۹۷ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنِعْمَتِكَ

کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بہ واسطہ اس انعام

السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَبِلَاغِكَ الْحَسَنِ الَّذِي

کے جو سابق میں مجھ پر رہا ہے۔ اور بہ واسطہ اس اچھے امتحان کے جو

ابْتَلَيْتَنِي بِهِ وَفَضْلِكَ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَيَّ أَنْ

تو نے لیا ہے، اور بہ واسطہ اس فضل کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔

تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِسَبِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ ۝

یہ کہ تو مجھے اپنے احسان اور فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَهُدًى ۱۹۸ ﴿

یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایمان دائم اور ہدایت

قِيَمًا وَعِلْمًا نَافِعًا ۱۹۹ ﴿اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ

محکم اور علم نفع بخش۔ یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر

فائدہ ۱۹۷ اس دُعاء میں اللہ جل شانہ کے انعامات کا واسطہ جن کی شہادت ہر انسان کا ذرہ

ذرہ دیکھے دے کر یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! تیری ہر آزمائش اور امتحان میں یقیناً

بھلائی اور ہمارا ہی فائدہ ہے ہم اپنی عاجزی اور بے بسی سے یہ درخواست کرتے ہیں تو اپنے

محض فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ فائدہ ۱۹۸ اس دُعاء میں دائمی ایمان،

عِنْدِي نِعْمَةٌ أَكْفِيهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا

احسان نہ ہونے دے کہ مجھے اسکا معاوضہ ادا کرنا پڑے۔ دنیا میں

وَالْآخِرَةِ ۲۰۰ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي

اور آخرت میں یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے اخلاق

خُلُقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي

کو وسیع کر دے اور میری آمدنی کو حلال رکھ، اور جو تو نے مجھے دے رکھا ہے، اس پر مجھے قانع کر دے،

وَلَا تُذْهِبْ طَلِبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي ۝

اور اس چیز کی طرف میری طلب ہی کونہ لے جا جو تو نے مجھ سے ہٹالی ہو۔

۲۰۱ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ مِنْ جَمِيعِ كُلِّ شَيْءٍ

یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے

خَلَقْتَ وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَأَجْعَلُ لِي

پیدا کی ہیں، اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور میرے لئے

ہدایت اور نفع بخش علم کی دعا کی جا رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے وہ علم عطا کر جس سے ہماری دنیا و آخرت کا بھلا ہو اور قبر سے جنت تک کی تمام منازل آسان فرما۔ **فائدہ ۲۰۰** اس دعا میں گناہوں کی بخشش، اخلاق کی وسعت، رزق حلال اور قناعت کی طلب کے ساتھ یہ سب دعا مسنون ہمیں سکھلائی گئی ہے کہ اے اللہ جو چیز میری

عِنْدَكَ وَلِيَجَةً وَأَجْعَلْ لِي عِنْدَكَ زُلْفَى

اپنے ہاں دخل پیدا کر دے، اور میرے لئے اپنے ہاں تقرب

وَحُسْنَ مَابٍ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَ

اور حسن مراجعت پیدا کر دے اور مجھ ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور

وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوا لِقَاءَكَ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ

تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیرے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے

إِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَأَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَّقِبًا لَا

جو تیری طرف توجہ خالص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں عمل مقبول کا

وَعِلْمًا نَّجِيحًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَتِجَارَةً لَّنْ

اور علم کارآمد کا اور سعی مشکور کی اور تجارت

تَبَوُّرًا ۲۰۲ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِكَاكَ رَقَبَتِي

کامیاب کی۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری جان بخشی کر دی جائے

قسمت میں ہی نہیں اس چیز کی تمنا اور طلب میرے دل سے نکال دے۔ قناعت کے بارے

میں مولانا عبدالمجید دریا آبادی کا جملہ نقل کرتا ہوں کہ جس کو دولت قناعت حاصل ہو وہ دولت

ہفت اقلیم سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ **فائدہ ۲۰۲** اس دُعاء میں دولت سے جان بخشی کی

تعلیم کی جارہی ہے کون سا انسان ایسا ہوگا جو جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار

مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

دوزخ سے یا اللہ میری مدد کر موت کی بے ہوشیوں پر

وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ ۲۰۳ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَ

اور سختیوں پر - یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور

الْحَقِيقِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى ۲۰۴ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ

مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں اس حال میں کہ میں اسے جان رہا ہوں، اور تجھ سے اس شرک کی

لِيَلَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَدْعُو عَلَيَّ رَحِمٌ

معافی چاہتا ہوں جسے نہ جانتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بددعا

قَطَعْتُهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ

دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے

ہو۔ اس لیے یہ دُعا اور اس کے ساتھ خصوصیت سے سکرات موت یعنی جان کنی کے وقت حفاظت

ایمان کی دُعا کو ساتھ ملا کر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ عذاب قبر اور جہنم سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ایمان کو

بحفاظت قبر تک پہنچانا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ **فائدہ ۲۰۴ (الف)** اس

دُعا میں شرک سے پناہ کے بعد خصوصیت سے ایک عظیم سبق سکھلایا جا رہا ہے جس سے کم و بیش

يَيْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَيْشِي

جو پیٹ کے بل چلتا ہے۔ اور اس حیوان کے شر سے

عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَيْشِي عَلَى أَرْبَعِ

جو دو پیروں سے چلتا ہے اور اس حیوان کے شر سے جو چاروں پیروں سے چلتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِمْرَأَةٍ تُشِيبُنِي

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی

قَبْلَ الشَّيْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ

بوڑھا کر دے۔ اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو

عَلَى وَبَالًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَكُونُ

مجھ پر وبال ہو، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں

عَلَى عَذَابًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب ہو جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں

ہر انسان کوتاہی اور غفلت برتتا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی میرا رشتہ دار بددعا دے جس کی مجھ سے حق تلفی ہوگی ہو۔ **فائدہ ۲۰۴ (ب)** اس دُعاء میں بیوی اور اولاد و مال کی مصیبت سے حفاظت کی دُعا کی جا رہی ہے جس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل و عیال بلاشبہ انسان کی راحت کی چیزیں ہیں لیکن کبھی کبھی یہ سب سے بڑی مصیبت

الشَّكِّ فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَأَعُوذُ بِكَ

حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

شیطان مردود سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں

يَوْمِ الدِّينِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ

روز جزا کی سختی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت

الْفُجَاءَةِ وَمِنْ لَدَغِ الْحَيَّةِ وَمِنَ السَّبُعِ وَمِنْ

ناگہانی سے اور سانپ کے کاٹنے سے اور درندے کے پھاڑنے سے

الْغَرَقِ وَمِنْ الْحَرَقِ وَمِنْ أَنْ أُخْرَجَ عَلَى شَيْءٍ

اور ڈوبنے سے اور جل جانے سے اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں

وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّحْفِ ۝

اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے۔

اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں اس لیے یہ دعا سکھلائی کہ اے اللہ! میرے لیے میرے اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس وقت اس دنیا میں مال اور اولاد ایک امتحان کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور ساتھ ہی یہ دعا تعلیم کی جارہی ہے کہ اے اللہ حادثاتی اموات سے غرق ہونے سے جلنے سے سانپ اور درندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔

عاجزانه التماس

ان دعاؤں کے اختتام پر درخواست ہے کہ یہ دعا کر دیجئے کہ جو دعائیں ان سات منزلوں میں پڑھی گئی ہیں۔ وہ ساری کی ساری درج ذیل حضرات کے لئے اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (مؤلف کتاب) مولانا عبدالواسع مرحوم (ناظم ترجمہ) اور مولانا حکیم محمد مصطفیٰ مرحوم (مترجم اول) اور مولانا محمد علی مرحوم اور مولانا شبیر علی مرحوم اور مفتی محمد حسن امرتسری مرحوم، حاجی غلام سرور مرحوم، مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم اور جناب خلیل احمد، جناب ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب، اور میرے تمام اساتذہ و مشائخ اور احباب اور تمام مومنین اور مومنات کے حق میں قبول فرمائے۔

محتاج دُعا

احقر حافظ فضل الرحمن غفرلہ عنہ

ہب تم جامعہ اشرفیہ لاہور



اقرا اشرفي سيني (رجسٹرڈ)



فہم القرآن حدیث شہادت
پیاری دعاؤں کی خواہ صورت مستند کتاب

مُنَاجَاةٌ مَّقْبُولَةٌ مُرْتَجَمٌ

مؤلف

پہم اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

M-31

7- فرسٹ فلور زمبیدہ سنٹر
40 اردو بازار لاہور

اقرآن شرف کمپنی®

